پیداواری منصوبہ

2026

دھان

محکمہ زراعت حکومت پنجاب

دھان خریف کی ایک نہایت ہی اہم فصل ہے۔ یہ چاول کی مقامی ضروریات پورا کرنے کے ساتھ ساتھ زرمبادلہ کمانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں دھان کے روایتی علاقہ میں پیدا ہونے والا چاول دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ دھان کی پرالی مویشیوں کے لئے چارے اور اس کی پھک جانوروں کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ چاول کا آٹا بھی مختلف کھانے کی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے۔

پنجاب میں دھان کے زیرِ کاشت کل رقبہ، کل پیداوار اور فی ایکڑ اوسط پیداوار کی تفصیل درج ذیل میں دی گئی ہیں۔ یہ اعداد و شمار کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب کے جاری کردہ ہیں۔

دھان کے زیرِ کاشت رقبہ

سال	باسمتی		غیر باسمتی		کل (باسمتی+غیر باسمتی)	
	ہزار ہیکٹر	ہزار ایکڑ	ہزار ہیکٹر	ہزار ایکڑ	ہزار ہیکٹر	ہزار ایکڑ
2021-22	1771.68	4378	783.46	1936	2555.14	6314
2022-23	1678.61	4148	510.70	1262	2189.31	5410
2023-24	2114.85	5226	488.85	1208	2603.70	6434
2024-25	2029.09	5014	685.13	1693	2714.23	6707
2025-26	2086.15	5155	346.82	857	2432.97	6012

پیداوار چاول (ہزار میٹرک ٹن)

سال	باسمتی	غیر باسمتی	کل (باسمتی+غیر باسمتی)
2021-22	3650.00	2129.00	5779.00
2022-23	3731.00	1339.00	5070.00
2023-24	4736.00	1381.00	6117.00
2024-25	4296.00	1734.00	6030.00
2025-26	4485.00	1047.00	5532.00

اوسط پیداوار چاول

سال	باسمتی		غیر باسمتی		کل (باسمتی+غیر باسمتی)	
	کلوگرام فی ہیکٹر	40 کلوگرام فی ایکڑ	کلوگرام فی ہیکٹر	40 کلو گرام فی ایکڑ	کلوگرام فی ہیکٹر	40 کلوگرام فی ایکڑ (من فی ایکڑ)
2021-22	2060	20.84	2704	27.49	2257	22.83
2022-23	2060	20.84	2717	26.53	2262	22.88
2023-24	2240	22.66	2825	8.58	2349	23.77
2024-25	2117	21.42	2531	25.61	2222	22.48
2025-26	2150	21.75	3021	30.56	2273	23.00

نوٹ: پیداوار اور اوسط پیداوار کے اعدادوشمار چاول کی مد میں دی گئی ہے۔ چاول کے اعدادوشمار کو مونجی میں بدلنے کے لئے 0.6 پر تقسیم کریں۔ مثال کے طور پر اوپر دی گئی چاول کی اوسط پیداوار (23.00 من فی ایکڑ) کو اگر مونجی میں دیکھا جائے تو یہ 23.00/0.6 یعنی 38.33 من فی ایکڑ بنتی ہے۔ یعنی اس برس پنجاب میں مونجی کی اوسط پیداوار 38.33 من فی ایکڑ حاصل ہوئی۔

سفارش کردہ اقسام اور وقت کاشت

	اقسام	پنیری کا وقت کاشت	وقت منتقلی
1	**موٹی اقسام** اری 6، کے ایس 282، کے ایس کے 133، نیاب اری 9، نیاب 2013، کے ایس کے 434، نجی -5، نیاب ایس ٹی-9، نیاب آر سی-195 اور کے ایس کے 706	20 مئی تا 7 جون	20 جون تا 7 جولائی
	نجی جی ایس آر-6، نجی جی ایس آر-7، نجی جی ایس آر-8 اور ایس کے سی بی-32-5-370	30 مئی تا 15 جون	30 جون تا 15 جولائی
2	**باسمتی/فائن اقسام** الخالد رائس، پی کے-386	25 مئی تا 10 جون	25 جون تا 10 جولائی
	وائٹل سپر باسمتی، سونا سپر باسمتی، نیاب ایس-39، نیاب ایچ ٹی ٹی-18، گارڈ-101، پی کے 2021 ایرومیٹک، نیاب سپر، این پی آر-2، نجی باسمتی 2020، سپر گولڈ، سپر باسمتی 2019، باسمتی 515، سپر باسمتی، چناب باسمتی، پنجاب باسمتی، پی کے 1121 ایرومیٹک، نیاب باسمتی 2016 اور نور باسمتی	7 جون تا 25 جون	7 جولائی تا 25 جولائی
	شاہین باسمتی	15 جون تا 30 جون	15 جولائی تا آخر جولائی
	سلطان سپر باسمتی	10 جون تا 25 جون	10 جولائی تا 25 جولائی
	کسان باسمتی (پنیری کی عمر 25 تا 30 دن)	10 جون تا 30 جون	5 جولائی تا 25 جولائی
3	باسمتی ہائبرڈ: کے۔ ایس۔ کے 111 ایچ (پنیری کی عمر 25 تا 30 دن)	7 جون تا 25 جون	2 جولائی تا 25 جولائی
4	سفارش کردہ موٹی ہائبرڈ (پنیری کی عمر 25 تا 30 دن)	20 مئی تا 15 جون	15 جون تا 15 جولائی
5	ڈائمنڈ 909 اور ڈائمنڈ 123 (پنیری کی عمر 25 تا 30 دن)	20 مئی تا 30 جون	15 جون تا 30 جولائی

نوٹ: الخالد رائس صرف سٹیم اور سیلا کے لیے موزوں ہے۔ عام ملنگ (چھڑائی) میں اس کے دانے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ اس قسم کو ایک بوری سے زیادہ یوریا نہ ڈالیں تا کہ یہ زیادہ قد نہ کرے اور کھیت میں زیادہ پانی بھی کھڑا نہ رکھیں۔

دھان کی اگیتی کاشت

سال 26-2025 میں کاشتہ اگیتی دھان کی پیداوار موسمی حالات کی وجہ سے بہتر نہ تھی لہٰذا کاشتکار اگیتی کاشت کے حوالے سے مقامی زرعی ماہرین سے مشاورت کے بعد منصوبہ بندی کریں۔

پنیری کی کاشت کے لئے شرح بیج فی مرلہ

تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل شرح بیج کے استعمال سے پنیری صحت مند اور توانا تیار ہوتی ہے جس سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ بیج کے اُگاؤ کی شرح 80 فیصد سے زیادہ ہونی چاہیے۔

طریقہ کاشت / قسم دھان	کدو کا طریقہ	خشک طریقہ	راب کا طریقہ
موٹی اقسام	ایک کلوگرام فی مرلہ	ڈیڑھ کلوگرام فی مرلہ	دو کلوگرام فی مرلہ
باسمتی / فائن اقسام	500 تا 750 گرام فی مرلہ	750 تا 1000 گرام فی مرلہ	ایک کلوگرام تا ڈیڑھ کلوگرام فی مرلہ

شرح بیج فی ایکڑ (کلوگرام)

طریقہ کاشت / قسم دھان	کدو کا طریقہ	خشک طریقہ	راب کا طریقہ
موٹی اقسام:	6 تا 7	7 تا 8	10 تا 12
باسمتی / فائن اقسام:	4 تا 5	6 تا 7	8 تا 10
موٹی ہائبرڈ اقسام	5 تا 6	-	-

دھان کی سفارش کردہ اقسام کی خصوصیات

نمبر شمار	اقسام	نام قسم	نام ادارے کا نام	سن اجراء	قد (سینٹی میٹر)	تنے کی مضبوطی	منتقلی لاب سے پکنے تک کی مدت (دن)	پیداواری صلاحیت (من فی ایکڑ)
1	موٹی	اری-6	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	1971	105	مضبوط	105 تا 110	80
2	-	کے ایس-282	-	1982	115	مضبوط	95 تا 100	100
3	-	نیاب اری-9	نیاب، فیصل آباد	1999	115	مضبوط	100 تا 105	80
4	-	کے ایس کے-133	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2006	105	مضبوط	100 تا 105	105
5	-	کے ایس کے-434	-	2013	105 تا 110	مضبوط	105 تا 110	105
6	-	نیاب-2013	نیاب، فیصل آباد	2013	106 تا 121	مضبوط	110 تا 115	80 تا 00
7	-	نجی-5	نجی، فیصل آباد	2021	108 تا 112	مضبوط	100 تا 105	80
8	-	نجی۔جی ایس آر-6	-	2023	110	مضبوط	100 تا 105	110
9	-	نجی۔جی ایس آر-7	-	2023	110	مضبوط	100 تا 105	110
10	-	نجی۔جی ایس آر-8	-	2023	110	مضبوط	100 تا 105	110

11	-	ایس کے سی B-370-5-32	-	2023	115	مضبوط	100 تا 105	110
12	-	نیاب آر سی-195	نیاب، فیصل آباد	2023	115 تا 120	بہت مضبوط	90تا95	90 تا 100
13	-	نیاب ایس ٹی-9	-	2023	116 تا 124	بہت مضبوط	95 تا 100	90 تا 100
14	-	کے ایس کے-706	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2025	125 تا 130	مضبوط	99	110
15	باسمتی/ فائن	باسمتی سپر	-	1996	120	مضبوط	115 تا 120	60
16	-	شاہین باسمتی	ایس ایس آر آئی، پنڈی بھٹیاں	2000	135	مضبوط	95 تا 100	60
17	-	باسمتی-515	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2011	125	مضبوط	110 تا 115	65
18	-	پی کے-1121 ایرومیٹک	-	2013	120	مضبوط	110 تا 115	65
19		پی کے-386	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2014	115	مضبوط	100 تا 105	60
20	-	کسان باسمتی	-	2016	95	مضبوط	90 تا 95	62
21	-	پنجاب باسمتی	-	2016	107	مضبوط	105 تا 110	65
22	-	چناب باسمتی	-	2016	122	مضبوط	110 تا 115	65
23	-	نور باسمتی	نیاب، فیصل آباد	2016	120	مضبوط	110 تا 105	75
24	-	نیاب باسمتی-2016	-	2016	130 تا 140	کمزور	105 تا 100	60
25	-	سپر باسمتی 2019	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2019	125	مضبوط	115 تا 120	70
26	-	سپر گولڈ	-	2019	110	مضبوط	110 تا 115	65
27	-	پی کے-2021 ایرومیٹک	-	2021	125	مضبوط	115 تا 120	70
28	-	اقالڈ رائس	ایس ایس آر آئی، پنڈی بھٹیاں	2021	140-135	بہت مضبوط	120 تا 125	72
29	-	کچی باسمتی 2020	کچی، فیصل آباد	2021	115-112	مضبوط	112 تا 115	65
30	-	این بی آر-2	-	2021	118	مضبوط	110 تا 115	65
31	-	نیاب سپر	نیاب، فیصل آباد	2021	123	مضبوط	115 تا 120	65
32	-	نیاب ایس-39	-	2023	120 تا 125	مضبوط	102 تا 108	66
33	-	نیاب ایچ ٹی-18	-	2023	130 تا 135	مضبوط	115 تا 120	63
34	-	وائٹل سپر باسمتی	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2023	130	مضبوط	105 تا 110	70
35	-	سونا سپر باسمتی	-	2023	132	مضبوط	110 تا 115	70

36	-	گارڈ-101	گارڈ ایگری ریسرچ & سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور	2023	115-110	مضبوط	117	60
37	-	سلطان سپر باسمتی	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2025	125 تا 130	مضبوط	108	77
38	باسمتی ہائبرڈ	کے ایس کے۔ 111 ایچ	تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	2021	120	مضبوط	105 تا 110	115
39	لمبا چاول	ڈائمنڈ 909	سن کراپ پرائیویٹ لمیٹڈ	2023	5-125	مضبوط	80-90	80-105
40	موٹا چاول	ڈائمنڈ 123	سن کراپ پرائیویٹ لمیٹڈ	2019	115-120	مضبوط	95-105	100-125

غیر منظور شدہ اور ممنوعہ اقسام

غیر منظور شدہ اور ممنوعہ اقسام مثلاً سپر فائن، سپرا، 1847، PB7، 1692، 1718 اور 1885، 1530 اور دیگر ممنوعہ اقسام ہرگز کاشت نہ کریں کیونکہ ان پر بیماریوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ نیز ان کے چاول کا معیار ناقص ہے، ان کی ملاوٹ سے چاول کا معیار متاثر ہوتا ہے اور برآمد کرنے پر ملکی چاول کی ساکھ پر برا اثر پڑتا ہے۔

پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس بیج کی دستیابی

دھان کا بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن کے قائم کردہ مراکز و مقرر کردہ ڈیلروں اور رجسٹرڈ پرائیویٹ کمپنیوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کے پاس اس سال دھان کی مختلف اقسام کا بیج درج ذیل مقدار میں دستیاب ہے۔ دھان کی نئی منظور شدہ اقسام کا بیج متعلقہ اداروں سے محدود مقدار میں مل سکتا ہے۔

باسمتی/فائن اقسام	مقدار بیج (20 کلوگرام والا تھیلا)	موٹی اقسام	مقدار بیج (20 کلوگرام والا تھیلا)
باسمتی سپر	3601	نیاب اری-9	4148
پی کے-1121 ایرومیٹک	20767	کے ایس کے-133	7838
کسان باسمتی	112553	نجی جی ایس آر-6	11808
پی کے-386	1248	دیگر اقسام (جی ایس آر-7)	1289
باسمتی- 515	2268	-	-
دیگر اقسام	20696	-	-
میزان	**161,133**	**میزان**	**25,083**
کل میزان		**186,216 تھیلے**	

بیج کے اُگاؤ کی شرح معلوم کرنا

بیج کے اُگاؤ کی شرح معلوم کرنے کے لئے بیج کی ہر لاٹ میں سے چار سو بیج گن کر ان کو پانی میں بھگو دیں۔ چوبیس گھنٹے بھگونے کے بعد انہیں گیلے کپڑے میں لپیٹ کر سایہ دار جگہ میں رکھ دیں اور اس کے اوپر وقتاً فوقتاً پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں تاکہ کپڑا گیلا رہے۔ 36 تا 48 گھنٹے کے بعد مذکورہ بیج انگوری مارلے گا۔ اب انگوری مارے ہوئے بیجوں کو گن کر مندرجہ ذیل طریقہ سے

فیصد اُگاؤ معلوم کرلیں۔ یاد رہے کہ بیج کے اُگاؤ کی شرح 80 فیصد سے زیادہ ہونی چاہیے بصورتِ دیگر اسی تناسب سے فی ایکڑ بیج کی مقدار بڑھالیں۔

بیج کا فیصد اُگاؤ = (انگوری مارے ہوئے بیجوں کی تعداد ÷ بیجوں کی کل تعداد) × 100

مثال کے طور پر اگر انگوری مارے ہوئے بیجوں کی تعداد 320 ہو تو بیج کی شرح اُگاؤ درج ذیل ہوگی۔

بیج کا فیصد اُگاؤ = $\frac{320}{400} \times 100 = 80$ فیصد

پنیری کا طریقہ کاشت

علاقے اور زمین کی خاصیت کی مناسبت سے پنیری کی کاشت مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے۔

(1) کدو کا طریقہ (2) خشک طریقہ (3) راب کا طریقہ

کدو کا طریقہ

دھان کے روایتی علاقوں میں پنیری کی کاشت عام طور پر کدو کے طریقے سے کی جاتی ہے۔

الف۔ بیج کی تیاری

بیج کی مقدار سے سوا گنا زیادہ تازہ پانی لیں اور اس میں سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر فلوڈوکسائل 25 ایف ایس بحساب 100 تا 150 ملی لٹر یا فلوڈوکسائل + میٹالکسل ایم بحساب 300 تا 400 ملی لٹر فی 100 کلوگرام بیج میں سے کوئی ایک لگائیں۔ اس کے بعد اسے سایہ دار جگہ میں فرش پر انڈیل دیں، جب زائد پانی نکل جائے تو 15 تا 20 کلوگرام کی ڈھیریاں لگادیں اور گیلی بوریوں وغیرہ سے ڈھانپ دیں یعنی دبو دیں۔ دن میں دو تا تین مرتبہ بیج کو ہلاتے رہیں اور بوریوں پر پانی چھڑکتے رہیں تاکہ بیج خشک نہ ہوجائے۔ 36 تا 48 گھنٹے میں بیج انگوری مارے گا۔

ناقص اور ہلکا بیج الگ کرنا

اگر تصدیق شدہ بیج کی عدم دستیابی کی وجہ سے گھر کا بیج استعمال کرنا ہو تو مندرجہ بالا مرحلے سے پہلے خوردنی نمک 25 گرام فی لٹر پانی کا محلول بنائیں اور بیج کو اس میں بھگو دیں۔ ناقص اور ہلکا بیج اوپر آجائے گا، اسے نتھار کر الگ کرلیں۔ بعدازاں بیج کو پانی سے دھو کر اچھی طرح صاف کرلیں تاکہ نمک والے پانی کی وجہ سے بیج کی روئیدگی متاثر نہ ہو۔ اس کے بعد مندرجہ بالا طریقے سے انگوری مارا بیج تیار کرلیں۔

ب۔ زمین کی تیاری

بیج کی تیاری کے ساتھ ساتھ کھیت کی تیاری بھی کرتے رہیں، اس کے لئے ایک تا دو مرتبہ خشک ہل چلائیں اور کھیت کو پانی لگادیں۔ پانی میں دوہرا ہل چلائیں اور سہاگہ دیں یعنی کدو کرلیں۔ کھیت تیار کرکے اس کو دس مرلے کے کیاروں میں تقسیم کرلیں۔ جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لیے اس ضمن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی جڑی بوٹی مار زہر کا استعمال کریں۔

بیج کا چھٹہ و دیگر عوامل

اب انگوری مارے ہوئے بیج کا کھڑے پانی میں چھٹہ دیں۔ چھٹہ دیتے وقت کھیت میں پانی کی سطح ایک تا ڈیڑھ انچ ہونی چاہیے۔ بیج کا چھٹہ شام کے وقت دیں اور اگلی شام کھیت سے پانی نکال دیں اور آنے والی صبح پھر تازہ پانی ڈال دیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے پانی گرم ہونے پر بیج گلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ 3 تا 4 دن بعد یہ عمل بند کردیں۔ پنیری کا قد بڑھنے پر پانی کی گہرائی بڑھادیں لیکن یہ تین انچ سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ سے 25 سے 30 دن میں پنیری تیار ہوجاتی ہے۔

خشک طریقہ

یہ طریقہ میرا زمین کے لئے ہے جہاں پانی کھڑا نہیں ہوسکتا۔کھیت کی راؤنی کریں اور وتر آنے پر دو ہرا ہل اور سہاگہ چلائیں اور خشک بیج کا چھٹہ دیں۔اس پر روڑی، توڑی، پھک یا پرالی کی ایک انچ موٹی تہہ بکھیر دیں۔اس کے بعد کھیت کو ہلکا پانی لگا دیں۔پانی لگاتے وقت نکے کے آگے سوکھی گھاس وغیرہ رکھ دیں تاکہ پانی کے زور سے بیج بہہ نہ جائے۔توڑی یا پرالی کو چند دن بعد اٹھا دیں تاکہ پنیری پر سورج کی روشنی پڑ سکے۔اس طریقہ سے پنیری 35 سے 40 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے انسداد کیلئے اُگاؤ کے 15 دن بعد سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے وتر حالت میں کریں۔

راب کا طریقہ

یہ طریقہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں رائج ہے جہاں زمین عموماً سخت ہوتی ہے۔ابتدائی تیاری کے بعد کھیت کو ہموار کر کے گوبر، پھک یا پرالی کی دو انچ موٹی تہہ ڈالیں اور صبح یا دوپہر کے وقت اس کو آگ لگا دیں- راکھ ٹھنڈی ہونے پر اس کو گوڈی کر کے زمین میں ملا دیں۔بعد ازاں خشک بیج کا چھٹہ دیں اور ہلکا سا پانی لگا دیں۔اس طریقہ سے بھی پنیری 35 سے 40 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔

پنیری میں کھاد کا استعمال

اگر پنیری کمزور ہو تو یوریا بحساب ایک پاؤ (250 گرام) یا کیلشیم امونیم نائٹریٹ بحساب 500 گرام فی مرلہ لاب منتقلی سے دس دن پہلے چھٹہ دیں۔

پنیری میں جڑی بوٹیوں کا انسداد

قبل از اگاؤ اثر کرنے والی زہریں

کدو کرنے کے بعد سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر کی مجوزہ مقدار شیکر بوتل کے ساتھ کھیت میں بکھیر دیں۔اس کے 48 تا 72 گھنٹے بعد تک کھیت میں پانی کھڑا رہنے دیں اور پھر نکال کر تازہ پانی ڈال دیں۔پانی ڈالنے اور نکالنے کا یہ عمل دو تا تین مرتبہ دوہرائیں اور پھر انگوری مارے ہوئے بیج کا چھٹہ دے دیں۔

بعد از اگاؤ اثر کرنے والی زہریں

اگر کسی وجہ سے قبل از اگاؤ اثر کرنے والی زہریں استعمال نہ ہو سکی ہوں یا استعمال کے باوجود جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو بعد از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر سپرے کریں۔ان کے سپرے کے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تر وتر کی حالت میں سپرے کریں۔زہروں کی مقدار کا تعین کرتے وقت اندازے سے ہرگز کام نہ لیں کیونکہ اس وقت اندازے میں تھوڑی سی غلطی یا بے احتیاطی سے کاشتہ لاب کی نشوونما رک سکتی ہے یا لاب بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے۔اس لیے زہر کی سفارش کردہ مقدار اور طریقہ استعمال لیبل پر لکھی ہوئی ہدایات اور محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق کریں۔

پنیری میں نقصان دہ کیڑوں کا انسداد

بعض اوقات ٹوکا پنیری پر شدید حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے پنیری دوبارہ کاشت کرنا پڑ جاتی ہے۔اس کے تدارک کے لئے ضروری ہے کہ کھیت کی وٹوں اور کھالوں کی صفائی کی جائے۔

فروری مارچ میں کھیت کی وٹوں پر سفارش کردہ زہر کا دھوڑا یا سپرے کریں تا کہ ٹوکوں کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی مر جائیں اور پنیری تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر پنیری پر ٹوکے کا حملہ معاشی نقصان کی حد (2 ٹوکے فی نیٹ) تک پہنچ جائے تو پنیری اور اس کے ارد گرد کی وٹوں پر سفارش کردہ زہر کا دھوڑا/اسپرے کریں۔ تنے کی سنڈیوں کا حملہ جب معاشی نقصان کی حد یعنی 0.5 فیصد سوک تک پہنچ جائے تو سفارش کردہ دانے دار زہر ڈالیں۔ خیال رہے کہ دھان کی پنیری پر زہر پاشی معائنہ کے بغیر ہرگز نہ کریں۔

منتقلی لاب کے لئے زمین کی تیاری

دھان کی کاشت کے لئے موزوں زمین

چکنی زمین دھان کی کاشت کے لئے موزوں ہے تاہم ریتلی زمین کے سوا ہر قسم کی زمین میں اس کی کاشت کی جاسکتی ہے۔ شورزدہ اور کلراٹھی زمینوں میں بھی مناسب دیکھ بھال کر کے دھان کی کاشت کی جاسکتی ہے۔

پنیری کی منتقلی کے لئے کھیت کی تیاری و کدو کرنا

ایک مرتبہ خشک ہل چلالیں کہ اس سے زمین کھل جاتی ہے اور کدو کرتے وقت زمین جلد اور اچھی تیار ہوتی ہے۔ پنیری منتقل کرنے سے پہلے 5 دن تک اور پانی کی کمی کی صورت میں تین دن تک پانی کھیت میں کھڑا رکھیں اور کدو کریں۔ کدو کرتے وقت آخری سہاگے کے نیچے کھاد کی سفارش کردہ مقدار بھی ڈال دیں۔ کدو کرنے کے اگلے دن پنیری منتقل کریں۔ سیم تھور والی زمینوں کی آبادکاری کے دوران گہرا ہل نہ چلائیں۔ کلراٹھی زمینوں میں کدو نہ کریں کیونکہ اس سے نمکیات نیچے نہیں جائیں گے۔ جن کھیتوں/علاقوں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا وہاں زمین کی تیاری خشک طریقہ سے کریں۔

کدو بذریعہ واٹر ٹائٹ روٹاویٹر

روایتی طور پر کدو کی تیاری ہل اور سہاگے کی مدد سے کی جاتی ہے تاہم اس کے لئے روٹاویٹر بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اگر ممکن ہو تو کدو کرنے کے لئے واٹر ٹائٹ روٹاویٹر استعمال کریں۔ یہ روٹاویٹر خصوصاً کدو کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں بیرنگ اور دوسرے پرزہ جات کو پانی سے محفوظ رکھنے کے لئے اضافی سیلیں لگائی گئی ہیں۔ اس طریقہ سے کدو زیادہ بہتر طور پر تیار ہوتا ہے اور روٹاویٹر بھی خراب نہیں ہوتا۔

کھیت کی تیاری کا خشک طریقہ

دھان کی کاشت کے غیر روایتی علاقے جہاں زمینیں میرا قسم کی ہے اور ان میں پانی بہت جلد جذب ہو جاتا ہے، ان زمینوں کی تیاری خشک حالت میں کی جاتی ہے۔ لاب کی کھیت میں منتقلی تک وقفے وقفے سے کھیت میں تین تا چار مرتبہ دوہرا ہل اور سہاگہ چلا کر زمین کو باریک اور بھربھرا کر لیا جاتا ہے۔ لاب منتقل کرنے سے پہلے کھیت کو پانی سے بھر لیا جاتا ہے اور کدو کر کے فوراً لاب منتقل کر دی جاتی ہے۔ اس طریقہ سے کھیت میں جڑی بوٹیاں بہت زیادہ اُگتی ہیں۔ ان کے تدارک کے لیے زمین کی تیاری کے دوران کھیت کو وتر کا پانی لگا کر جڑی بوٹیوں کو اُگنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور پھر دورانِ تیاری ہی انہیں ہل چلا کر تلف کر لیا جاتا ہے۔ کیمیائی طریقے سے تلفی کے لیے بعد از اگاؤ اثر کرنے والی جڑی بوٹی مار زہریں استعمال کی جاسکتی ہیں۔

پنیری کی منتقلی

پنیری اُکھاڑنے سے ایک دو روز پہلے اسے پانی لگا دیں تا کہ زمین نرم ہو جائے اور اُکھاڑتے وقت پودے نہ ٹوٹیں۔ لاب اُکھاڑتے وقت جھلسے ہوئے، بکائنی یا سنڈی سے متاثرہ

پودے تلف کر دیں۔ پودوں اور قطاروں کا باہمی فاصلہ 9 انچ رکھیں اور ہر سوراخ میں 2 پودے لگائیں۔ اس طرح فی ایکڑ سوراخوں کی تعداد تقریباً 80000 اور پودوں کی تعداد 160000 ہو گی۔ لاب کی منتقلی تقریباً ایک تا ڈیڑھ انچ گہرے پانی میں کریں۔ پہلے ہفتے میں پانی کی گہرائی اتنی رکھیں پھر آہستہ آہستہ 2 انچ تک کر دیں لیکن 3 انچ سے زیادہ نہ کریں ورنہ پودے شاخیں کم بنائیں گے اور پیداوار کم ہو گی۔ اگر کچھ ناغے رہ جائیں تو لاب کی منتقلی کے بعد 10 دن کے اندر اندر ان کو پر کر لیں۔

منتقلی کے وقت پنیری کی عمر

اگر زیادہ رقبہ پر مونجی لگانا ہو تو پنیری ہفتہ دس دن کے وقفہ سے قسطوں میں کاشت کریں تا کہ منتقلی کے وقت کدو کے طریقہ سے تیار کردہ پنیری کی عمر 25 تا 30 دن سے زیادہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ کسان باسمتی کی پنیری کی عمر بوقت منتقلی 25 دن تک ہو لیکن 30 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ خشک طریقہ اور راب کے طریقہ سے تیار کردہ پنیری کی عمر 35 تا 40 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

کلراٹھی زمینوں میں دھان کی کاشت

پنیری کلر سے پاک زمین پر تیار کریں۔ کلر کے خلاف قوتِ مدافعت رکھنے والی اقسام مثلاً نیاب اری 9، کے ایس 282، کے ایس کے 133، پی کے 386، نیاب 2013، شاہین باسمتی، الخالد رائس اور نجی جی ایس آر 6 کاشت کریں۔ منتقلی کے وقت لاب کی عمر 35 تا 40 دن ہونی چاہیے۔ جس کھیت میں لاب منتقل کرنی ہو اس کی تیاری گہرا ہل چلا کر شروع کریں لیکن کدو بالکل نہ کریں تا کہ پانی لگانے سے نمکیات کی دھلائی ہو سکے۔ لاب لگانے سے 7 تا 10 دن پہلے تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں۔ سفید کلر کی زیادتی کے باعث دھان کی نشوونما لاب کی منتقلی کے بعد دس دن کے اندر اندر متاثر ہوتی ہے۔ اس کا حل کھیت میں پانی کی تبدیلی ہے۔ کالے کلر کی زیادتی کے باعث فصل بیس دن کے اندر اندر متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ زمین کے تجزیہ کی بنیاد پر ایسی زمینوں میں گندھک کا تیزاب اور جپسم استعمال کرنے سے فصل کی نشوونما بحال ہو جاتی ہے۔

دھان کی فصل میں جڑی بوٹیوں کا انسداد

دھان کی فصل میں اُگنے والی جڑی بوٹیوں کو تین مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

❖ گھاس کے خاندان کی جڑی بوٹیاں

اس خاندان کی جڑی بوٹیوں کے پتے باریک اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ تنا عموماً گول اور جوڑ دار ہوتا ہے۔ پودے زمین کی سطح پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کچھ زمین سے اوپر اٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ اہم جڑی بوٹیاں یہ ہیں: بانسی گھاس، سوانکی گھاس، گھوڑا گھاس، ڈھڈن، کھبل گھاس، نڑو اور کلر گھاس یا لمب گھاس وغیرہ۔

❖ ڈیلے کے خاندان کی جڑی بوٹیاں

اس خاندان کی جڑی بوٹیوں کے پتے نوکیلے، پرنالہ نما، لمبے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کا تنا تین کونوں والا ہوتا ہے۔ پتے کے درمیان ایک لمبی اور واضح رگ ہوتی ہے۔ صوبہ پنجاب میں دھان کی فصل میں اس گروپ سے تعلق رکھنے والی جڑی بوٹیاں یہ ہیں: گھوئیں، بھوئیں اور ڈیلا وغیرہ۔

❖ چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں

اس خاندان کی جڑی بوٹیوں کے پتے چوڑے اور مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں۔ تنا قدرے سخت ہوتا ہے اور پودا زمین سے اوپر کو اٹھا ہوا اور سیدھا ہوتا ہے۔ اہم جڑی بوٹیاں یہ ہیں: کنا کمی، مرچ بوٹی، چوپتی اور دریائی بوٹی وغیرہ۔

غیر کیمیائی انسداد

زمین کی تیاری اچھی طرح سے کریں۔ دھان والے کھیتوں میں ادل بدل کے ساتھ چارے یا سبز کھاد والی فصلیں کاشت کریں۔ اگر وافر مقدار میں پانی موجود ہو تو کھیت میں لاب کی منتقلی کے بعد 20 تا 25 دن تک پانی کی سطح ایک تا دو انچ تک برقرار رکھیں۔

کیمیائی انسداد

جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لئے کیمیائی زہروں کا انتخاب اور استعمال زرعی توسیعی کارکن کے مشورہ سے کریں۔ کتابچہ کے آخر میں سفارش کردہ زہروں کی فہرست دی گئی ہے۔ لاب کی منتقلی کے 3 تا 5 دن کے اندر جڑی بوٹی مار زہریں شیکر بوتل کے ساتھ پانی میں بکھیر دیں۔ اس کے بعد 4 تا 5 دن تک کھیت سے پانی خشک نہ ہونے دیں۔ اگر کسی وجہ سے فصل میں جڑی بوٹیاں اُگ آئیں تو بعد ازاں گاؤاثر کرنے والی سفارش کردہ زہریں لاب کی منتقلی کے ایک مہینہ کے اندر تر وتر حالت میں سپرے کریں اور اس کے 24 گھنٹے بعد کھیت کو پانی لگا دیں اور کھیت میں تین تا چار دن تک پانی کھڑا رکھیں۔

کھادوں کی سفارشات

بہتر نتائج کے لئے کھادوں کا استعمال زمین کے کیمیائی تجزیہ کے مطابق کریں تاہم اوسط زرخیز زمین میں کھادوں کی مقدار درج ذیل میں دی گئی ہے۔

دھان کی فصل کے لئے کھادوں کی سفارشات فی ایکڑ

قسم دھان	N	P	K	پنیری منتقلی کے 4 سے 5 دن بعد	نائٹروجنی کھاد کی دوسری قسط (پنیری کی منتقلی کے 25 سے 30 دن بعد)
موٹی اقسام	72	40	25	پونے دو بوری ڈی اے پی + ایک بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	ڈیڑھ بوری یوریا
// //	72	40	25	ساڑھے چار بوری ایس ایس پی 18% + ڈیڑھ بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	ڈیڑھ بوری یوریا
// //	72	40	25	چار بوری نائٹروفاس + ایک بوری ایس او پی	اڑھائی بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ
باسمتی فائن اقسام	54	35	25	ڈیڑھ بوری ڈی اے پی + آدھی بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	سوا بوری یوریا
// //	54	35	25	چار بوری ایس ایس پی 18% + سوا بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	سوا بوری یوریا
// //	54	35	25	ساڑھے تین بوری نائٹروفاس + ایک بوری ایس او پی	سوا بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ
ہائبرڈ موٹا	81	46	25	دو بوری ڈی اے پی + ایک بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	پونے دو بوری یوریا
// //	81	46	25	پانچ بوری ایس ایس پی 18% + پونے دو بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	پونے دو بوری یوریا
// //	81	46	25	ساڑھے چار بوری نائٹروفاس + ایک بوری ایس او پی	اڑھائی بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ
ہائبرڈ فائن	69	40	25	پونے دو بوری ڈی اے پی + پونی بوری یوریا + ایک بوری ایس او پی	ڈیڑھ بوری یوریا

// //	69	40	25	ساڑھے چار بوری ایس ایس پی 18%+ ڈیڑھ بوری یوریا+ایک بوری ایس او پی	ڈیڑھ بوری یوریا
// //	69	40	25	چار بوری نائٹروفاس + ایک بوری ایس او پی	دو بوری کیلشیم امونیم نائٹریٹ

کھادوں کے استعمال کا طریقہ

- گوشوارہ کے مطابق فاسفورس و پوٹاش کی پوری کھاد اور نائٹروجن کھاد کا 1/2 حصہ پنیری منتقلی کے 4 تا 5 دن بعد ڈال دیں جبکہ نائٹروجن کھاد کی بقیہ مقدار پنیری کی منتقلی کے 25 سے 30 دن بعد ڈال دیں۔
- باسمتی اقسام میں نائٹروجنی کھاد کا استعمال 20 اگست تک مکمل کریں۔
- پوٹاش کی کھاد دو اقساط میں بھی ڈالی جاسکتی ہے۔ آدھی پنیری کی منتقلی کے وقت اور آدھی پنیری کی منتقلی کے 30 دن کے اندر
- سفارش کردہ ہائبرڈ اقسام کے لئے کھاد کی شرح مخصوص قسم کی ضرورت کے مطابق رکھیں

نائٹروجنی کھاد کا اقساط میں استعمال

دیگر تجربات میں یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ دھان کی باسمتی اقسام میں اگر نائٹروجنی کھاد کا استعمال 7 تا 10 دن کے وقفہ سے 3 تا 4 اقساط میں کیا جائے تو کھاد کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور فصل پر نقصان دہ اثرات بھی مرتب نہیں ہوتے۔

کھادوں کے استعمال سے متعلق ہدایات

اگر سابقہ فصل برسیم یا پھلی دار ہو یا کھیت وریال ہو تو نائٹروجنی کھاد کی مقدار میں مناسب کمی کرلیں۔ فصل کی حالت اور زمین کی زرخیزی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کھاد کی مقدار میں کمی یا بیشی کی جاسکتی ہے۔ کھاد کا چھٹہ دیتے وقت کھیت میں پانی کی مقدار کم سے کم رکھیں، بہتر ہے کہ پانی بالکل نہ ہو صرف کیچڑ ہی ہو۔ ٹیوب ویل سے سیراب ہونے والی زمینوں میں پوٹاش کی زیادہ کمی ہوتی ہے، شدید کمی کی صورت میں پوٹاش کی کھاد کا سپرے کریں۔ ناقص پانی (زائد سوڈیم والا) سے سیراب ہونے والی زمینوں میں سفارش کردہ کھاد کے علاوہ جپسم کی کھاد بحساب پانچ بوری فی ایکڑ بھی ڈالیں۔ کلراٹھی زمینوں میں 25% زیادہ نائٹروجنی کھاد استعمال کریں۔

زنک سلفیٹ کا استعمال

زنک کی کمی کی صورت میں پودے کے نچلے پتوں پر چھوٹے چھوٹے بھورے سیاہی مائل دھبے دکھائی دیتے ہیں اور بعد میں یہ دھبے اُوپر والے پتوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پتے زنگ آلود دکھائی دیتے ہیں، پودے کی بڑھوتری رُک جاتی ہے۔ پودے کو اگر اُکھاڑنے کی کوشش کی جائے تو بغیر کسی دِقت کے اکھڑ جاتا ہے کیونکہ اس کی جڑوں کی نشوونما نہیں ہو رہی ہوتی۔ زیادہ کمی کی صورت میں پتہ درمیان سے لمبائی یا چوڑائی کے رُخ پھٹ جاتا ہے۔

• لاب میں زنک سلفیٹ کا استعمال

دھان کی نرسری میں کاشت کے 2 ہفتہ بعد زنک سلفیٹ (33 فیصد) بحساب 200 گرام یا زنک سلفیٹ (27 فیصد) بحساب 250 گرام یا زنک سلفیٹ (21 فیصد) بحساب 300 گرام فی مرلہ استعمال کریں۔ یہ طریقہ معمولی کمی کی صورت میں کارگر ہے۔

• فصل میں زنک سلفیٹ کا استعمال

زنک سلفیٹ (33 فیصد) بحساب 6 کلوگرام یا زنک سلفیٹ (27 فیصد) بحساب 7.5 کلوگرام یا زنک سلفیٹ (21 فیصد) بحساب 10 کلوگرام فی ایکڑ لاب منتقل کرنے کے بعد 10 تا 15 دن کے اندر لازمی چھٹہ کریں۔

بوران کا استعمال

بوران کی کمی کی صورت میں نئے نکلتے ہوئے پتوں کی نوکیں سفید اور لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ شدید کمی کی صورت میں نئے نکلنے والے پتے گرجاتے ہیں تاہم نئے شگوفے (Tillers) بنتے رہتے ہیں۔ اگر سٹے نکلتے وقت بوران کی کمی آئے تو دانے نہیں بنتے۔ بوران کی کمی دھان کے بعض علاقوں میں دیکھی گئی ہے۔ تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بوران کی کمی کی صورت میں اس کا استعمال دھان کی پیداوار میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور دانے کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس کے لئے ترقی پسند کاشتکار زمین کی تیاری کے وقت بورک ایسڈ (17%) بحساب 3 یا بوریکس 10.5 فیصد بحساب 4.5 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کریں۔

دیگر متبادل کھادیں

فصل کے لئے سفارش کردہ خوراکی اجزاء کی مقدار کے حصول کے لئے دیگر متبادل کھادیں بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ مختلف کھادوں میں موجود مختلف غذائی اجزاء کی مقدار درج ذیل میں دی گئی ہے۔

مختلف کھادوں میں غذائی عناصر کی مقدار

مقدار کھاد و دیگر تفصیلات	وزن بوری (کلوگرام)	غذائی اجزاء (فیصد)			فی بوری غذائی اجزاء کی مقدار (کلوگرام)		
نام کھاد		نائٹروجن N	فاسفورس P_2O_5	پوٹاش K_2O	نائٹروجن N	فاسفورس P_2O_5	پوٹاش K_2O
یوریا	50	46	-	-	23	-	-
کیلشیم امونیم نائٹریٹ (CAN)	50	26	-	-	13	-	-
ٹرپل سپر فاسفیٹ (ٹی۔ایس۔پی)	50	-	46	-	-	23	-
سنگل سپر فاسفیٹ (18%)	50		18			9	
ڈائی امونیم فاسفیٹ (ڈی اے پی)	50	18	46		9	23	
نائٹروفاس	50	22	20		11	10	
پوٹاشیم سلفیٹ (ایس او پی)	50			50			25
پوٹاشیم کلورائیڈ (ایم او پی)	50			60			30

"کھاد حساب" موبائل ایپ

ادارہ زرخیزی زمین پنجاب لاہور نے " کھاد حساب " کے نام سے ایک انتہائی مفید اور آسان موبائل ایپ تیار کی ہے جو کہ کھادوں کے متوازن استعمال اور پیداوار میں اضافہ کے لئے تیار کی گئی ہے۔اس کو کاشتکار گوگل پلے سٹور میں "SFRI" لکھ کر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ بالکل فری ہے۔اس ایپ میں تمام فصلات کے لئے سفارش کردہ کھادوں سے متعلق معلومات موجود ہیں۔کاشتکار کھاد حساب (ایپ) کے ذریعے دستیاب رقم کے مطابق متوازن کھادوں کا حساب لگا کر ان کے استعمال سے پیداوار اور منافع میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

جنتر کا بطور سبز کھاد استعمال

ہماری زمینوں میں نامیاتی مادہ کی مقدار بہت کم ہے، اسے بہتر کرنے کے لئے نامیاتی کھادوں کا استعمال ناگزیر ہے۔علاوہ ازیں کیمیائی کھادوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے بھی نامیاتی و سبز کھادوں کا استعمال وقت کی ضرورت ہے۔زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار کو بہتر بنانے کے لئے سبز کھاد کا استعمال ایک اہم حکمتِ عملی ہے۔سبز کھاد کے لئے کئی فصلات اہم ہیں۔جنتر بطور سبز کھاد زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے۔دھان کے علاقہ میں اس کا استعمال نسبتاً زیادہ بہتر ہے۔اڈاپٹو ریسرچ فارم گوجرانوالہ میں کئے گئے تجربات کے مطابق جنتر کو بطور سبز کھاد استعمال کرنے سے اس کے بعد کاشت کی جانے والی فصل یعنی دھان وغیرہ کے لئے کھاد خصوصاً نائٹروجنی کھاد کی ضرورت نمایاں طور پر کم ہو جاتی ہے۔

گندم کی برداشت کے بعد جنتر کی کاشت

جنتر کی کاشت کیلئے گندم یا ربیع فصلات کی کٹائی کے فوراً بعد ایک مرتبہ ہل چلا کر کھیت کو پانی لگائیں اور جنتر کے بیج کا بحساب 15 تا 20 کلوگرام فی ایکڑ چھٹہ دے دیں۔چھٹہ دینے سے پہلے بیج کو چند گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو لیں۔ باسمتی دھان کی پنیری کی منتقلی سے تقریباً 15 تا 20 دن پہلے جب جنتر کی فصل پھول نکالنا شروع کر دے تو روٹاویٹر وغیرہ چلا کر اسے زمین میں ملا دیں۔اس کے بعد کھیت میں پانی کھڑا رکھیں اور منتقلی دھان سے کچھ دن پہلے کدو کریں اور کھیت تیار کر لیں۔جنتر کی باقیات کو بہتر طور پر گلانے کے لئے آدھی بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کی جا سکتی ہے۔

ادارہ زرخیزی زمین لاہور کے تجربات کے مطابق جنتر کی کاشت گندم کی فصل میں بھی کی جا سکتی ہے۔اس کے لئے گندم کو آخری پانی لگاتے وقت اس میں 8 کلوگرام فی ایکڑ جنتر کے بیج کا چھٹہ دے دیں۔جنتر اُگ آئے گا۔گندم کی کٹائی کے بعد کھیت کو پانی لگا دیں۔ 8 کلو بیج فی ایکڑ مزید چھٹہ دے دیں۔گندم کی فصل کی برداشت سے جنتر کی فصل متاثر ہوگی لیکن یہ دوبارہ تیزی سے بڑھتی ہے۔چھٹہ دینے سے پہلے بیج کو چند گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو لیں۔گندم یا ربیع فصلات کی کٹائی کے فوراً بعد بھی جنتر کی بوائی ممکن ہے مگر کھڑی گندم میں جنتر کے بیج کا چھٹہ دینے سے جنتر کو زیادہ وقت مل جاتا ہے۔اگلی فصل یا دھان کی پنیری کی منتقلی سے تقریباً 15 تا 20 دن پہلے ڈسک یا روٹاویٹر چلا کر جنتر کو زمین میں ملا دیں۔جنتر کی باقیات کو جلدی گلانے کے لئے آدھی بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یوریا کی یہ مقدار اگلی فصل میں کم کر لیں۔وقت آنے پر اگلی فصل کاشت کر لیں۔

دھان کی فصل کی آبپاشی

پنیری کی منتقلی کے وقت کھیت میں پانی کی گہرائی ایک تا ڈیڑھ انچ رکھیں۔زیادہ پانی کھڑا ہونے کی صورت میں تیز ہوا چلنے سے پودے اُکھڑ جاتے ہیں۔منتقلی کے ہفتہ عشرہ بعد پانی کی گہرائی بتدریج بڑھا دیں لیکن 2 انچ سے زیادہ نہ ہونے دیں کیونکہ زیادہ گہرائی کی صورت میں پودوں کی شاخیں کم بنیں گی۔لاب کی منتقلی کے 20 تا 25 دن بعد تک (پانی کی کمی ہونے کی صورت میں 15 دن تک) کھیت میں پانی کھڑا رکھیں اور پھر 5 تا 6 دن کے لیے کھیت کو ہوا لگنے دیں۔یاد رہے کہ کھیت تر رہے اور خشک نہ ہونے پائے ورنہ زمین میں دراڑیں یعنی کریک بن جائیں گے اور پانی کھڑا رکھنا مشکل ہوگا۔اس کے بعد فصل کو تر وتر کا پانی لگاتے رہیں۔اس مرحلہ پر وتر کا پانی دینے سے فصل کا قد مناسب ہوگا اور فصل گرے گی نہیں، کیڑوں اور بیماریوں کا حملہ کم ہوگا اور فصل مناسب وقت

پر پک جائے گی۔ تاہم کیڑے مار دانے دار زہریں ڈالتے وقت کھیت میں 5 تا 6 دن کے لئے ڈیڑھ تا دو انچ پانی ضرور موجود ہونا چاہیے۔ دانہ بھرنے کے بعد یعنی فصل پکنے سے دو ہفتہ قبل پانی دینا بند کر دیں تاکہ فصل کی کٹائی کے وقت کھیت گیلا ہونے کی وجہ سے دشواری نہ ہو۔ جن زمینوں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا وہاں وتر کا پانی لگاتے رہیں۔

یاد رہے کہ سٹہ نکلتے وقت اور دانہ بھرتے وقت فصل کو پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ وہ علاقے جہاں کھیتوں میں پانی کھڑا نہیں ہوتا وہاں دھان کی فصل خصوصاً باسمتی اقسام پر دھان کے بھبکے یعنی بلاسٹ کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں گوبھ سے لے کر دانہ بھرنے تک کھیت کو سوکا ہرگز نہ لگنے دیں۔ بلکہ کوشش کریں کہ کھیت تر وتر رہے۔ بصورت دیگر بلاسٹ کا حملہ زیادہ ہوگا۔ زیادہ پانی مسلسل کھڑا رہنے سے (Stem Rot) کی بیماری لگ سکتی ہے۔

فصل کی آبپاشی میں پانی کا منصفانہ استعمال

یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ روز بروز دستیاب پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے صورت حال اور بھی سنگین ہو رہی ہے۔ ماضی میں جتنا پانی میسر تھا اب اس سے بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر اسی طرح پانی کے استعمال میں لاپرواہی جاری رہی تو صورتِ حال مزید گھمبیر ہوتی جائے گی۔ اس کے پیشِ نظر ضرورت اس امر کی ہے کہ پانی کا منصفانہ استعمال کریں یعنی اس کے ایک ایک قطرے کو احتیاط کے ساتھ استعمال میں لا کر خوراک پیدا کرنے کے عمل کا حصہ بنایا جائے۔ فصلوں کو آبپاشی کرتے وقت پانی کو بالکل ضائع نہ کریں، فصل کی ضرورت کے وقت پانی لگائیں اور پانی کی مقدار بھی مناسب رکھیں۔ اس مقصد کے لئے کیارے چھوٹے بنائے جائیں اور پانی کے کھالوں کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھا جائے تاکہ پانی کی روانی میں رکاوٹ نہ آئے۔ پانی لگانے کے عمل کی زیادہ موثر طریقے سے نگرانی کی جائے۔ اس سے نہ صرف پانی کی بچت ہوگی بلکہ اس پر اُٹھنے والے اخراجات بھی کم ہوں گے اور زراعت کو مزید منافع بخش بنانے میں مدد ملے گی۔

دھان کی بیج سے براہ راست کاشت (DSR)

دھان کی کاشت بذریعہ منتقلی اب ایک مروجہ اور کامیاب طریقہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے پنیری کے طریقہ سے کاشت مہنگی ہو رہی ہے اور پودوں کی سفارش کردہ تعداد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ بیج سے براہ راست کاشت کے طریقہ کو اختیار کر کے ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس طرح پودوں کی فی ایکڑ سفارش کردہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے اور کام کی رفتار کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے یعنی روایتی کاشت کی نسبت تھوڑے وقت میں زیادہ رقبہ کاشت کیا جا سکتا ہے اور بعض صورتوں میں پانی کی بھی بچت کی جا سکتی ہے، دھان کی برداشت کے بعد زمین آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اور بعد میں آنے والی ربیع کی فصلات کی کاشت بروقت ہو سکتی ہے۔ تاہم دھان کی کاشت کی اس ٹیکنالوجی میں بیج کا اُگاؤ اور جڑی بوٹیوں کا انسداد اہم مسائل ہیں۔ کاشتکاروں کو چاہیے کہ اس طریقہ کاشت کو اپنانے سے پہلے ان عوامل سے مکمل آگاہی حاصل کر لیں۔

• زمین کی تیاری

اس طریقہ کاشت میں زمین کی تیاری بہت اہم ہے خصوصاً زمین کی ہمواری بہت ضروری ہے تاکہ فصل کا اُگاؤ بہتر ہو اور کھیت کو پانی یکساں طور پر لگایا جا سکے۔ زمین کی اچھی تیاری کے لئے کاشت سے کچھ دن پہلے دو مرتبہ خشک ہل چلائیں اور زمین ہموار کرنے کے بعد کھیت کو پانی لگا دیں۔ وتر آنے پر کھیت کو تیار کریں۔ اس طرح اُگی ہوئی جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جائیں۔ دھان کی براہ راست کاشت میں اس بات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ جس زمین میں پچھلے سال دھان کی جو قسم کاشت کی گئی ہو وہی قسم دوبارہ کاشت کی جائے کیونکہ پچھلے سال کے گرے ہوئے بیج بھی کافی تعداد میں اُگ آتے ہیں۔ ایسے کھیت جہاں گھوڑا گھاس (Leptochloa chinensis) وغیرہ زیادہ اُگتی ہو وہاں دھان کی براہ راست کاشت ہرگز نہ کریں۔ اسی طرح کلراٹھی زمین بھی اس طریقہ کاشت کے لئے موزوں نہیں ہے۔

- **موزوں اقسام:** کسان باسمتی کے سوا تمام منظور شدہ اقسام براہِ راست کاشت کی جا سکتی ہیں۔

- **شرح بیج**

باسمتی و فائن اقسام کے لئے 8 تا 10 جبکہ موٹی اقسام کے لئے 10 تا 12 کلوگرام بیج فی ایکڑ استعمال کریں۔ بیج کو کاشت سے پہلے سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر ضرور لگائیں۔

- **وقتِ کاشت**

موٹی اقسام کے لئے کاشت کا بہترین وقت 20 مئی تا 7 جون اور باسمتی اقسام کے لئے 7 جون تا 25 جون ہے۔

- **طریقہ کاشت**

خشک زمین میں کاشت

- **بذریعہ ڈرل مشین**

خشک تیار شدہ زمین میں DSR یعنی ڈائریکٹ سیڈ ڈرائس ڈرل کے ساتھ بوائی کریں۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ 9 انچ اور بیج کی گہرائی ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہ ہو۔ بوائی کے دوران بیج گرانے والے پائپوں کا معائنہ کرتے رہیں تاکہ کوئی پور مٹی کے پھنسنے کی وجہ سے بند نہ ہو۔ ہر چکر مکمل کرنے کے بعد ڈرل مشین کو اوپر اٹھا کر اس کا سائیڈ والا پہیہ گھمائیں اور چیک کریں کہ تمام پائپوں میں سے بیج زمین پر گر رہا ہے۔ اگر کوئی سوراخ بند ہو تو اس کو باریک چھڑی کی مدد سے کھول دیں۔ اگر کھیت میں کوئی سیاڑ بیج کے بغیر رہ جائے تو اس میں ہاتھ سے بیج گرا کر مٹی کی ہلکی تہہ سے ڈھانپ دیں۔ بوائی کے وقت ڈالی جانے والی فاسفورس اور پوٹاش کی سفارش کردہ کھاد کو بذریعہ ڈرل ڈال سکتے ہیں۔ بوائی کے بعد کھیت میں چھوٹے کیارے بنائیں اور ہلکا پانی لگا دیں۔ لیکن خیال رہے کہ بیج کے اگاؤ تک کھیت میں پانی کھڑا نہ ہو بلکہ تر وتر کا پانی لگائیں یعنی زمین گیلی رکھیں ورنہ اگاؤ متاثر ہوگا۔

- **بذریعہ چھٹہ**

اگر DSR ڈرل دستیاب نہ ہو تو بذریعہ چھٹہ بھی براہ راست کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس کے لئے خشک زمین تیار کرنے کے بعد شمالاً جنوباً ہلکا ہل چلائیں اور خیال رکھیں کہ پھالہ زمین میں ایک انچ سے زیادہ گہرا نہ جائے۔ بیج کا دوہرا چھٹہ کر کے اسی رخ کا سہاگہ پھیر دیں۔ بوائی کے وقت ڈالی جانے والی فاسفورس اور پوٹاش والی کھاد کی سفارش کردہ مقدار بھی زمین کی تیاری کے دوران ڈال دیں۔ بوائی کے بعد کھیت میں چھوٹے کیارے بنائیں اور ہلکا پانی لگا دیں۔

وتر زمین میں کاشت

اگر کاشت وتر والی زمین میں کرنا ہو تو زمین تیار کرنے کے بعد اوپر دیئے گئے طریقہ کے مطابق بذریعہ DSR ڈرل بوائی کریں یا چھٹہ کر کے سہاگہ پھیر دیں اور چھوٹے کیارے بنا دیں۔ چند دن بعد جب فصل کا اُگاؤ ہو جائے یعنی شگوفے زمین سے باہر نکل آئیں تو کھیت کو ہلکا سا پانی لگا دیں۔ پھر ایک ماہ تک تر وتر کا پانی لگائیں اور بعد میں وتر کا پانی لگاتے رہیں۔

نوٹ: جب 10 تا 12 دن بعد مونجی کی فصل اُگ آئے تو پودے کے قد کو دیکھتے ہوئے پانی کھڑا بھی کر سکتے ہیں لیکن پانی ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہ ہو۔

بیج سے براہ راست کاشت میں جڑی بوٹیوں کا انسداد

اس طریقہ کاشت میں جڑی بوٹیوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور ان کے انسداد کے مواقع بھی محدود ہوتے ہیں۔ اسلئے ان کے کنٹرول کے لئے زیادہ توجہ درکار رہوتی ہے۔ فصل کی بڑھوتری کے ابتدائی مراحل میں جڑی بوٹیوں کے اُگاؤ اور نشوونما کے لئے حالات زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ مربوط انسداد کے طریقے درج ذیل ہیں۔

- بوائی سے پہلے مئی کے پہلے پندرھواڑے میں دوہری راؤنی کر کے ہل چلائیں۔

- اگر دھان کی کاشت وتر حالت میں کی گئی ہو تو بوائی کے فوراً بعد قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں۔
- اگر کاشت خشک زمین میں کی گئی ہو تو کاشت کے فوراً بعد پانی لگائیں اور اگلے دن قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں۔ خیال رہے کہ سپرے کرتے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہ ہو۔
- اُگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے بوائی کے 15 تا 20 دن بعد وتر حالت میں بعد از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر کا سپرے کریں۔ بعض اوقات زہر کا ایک ہی سپرے کافی ہوتا ہے۔ اگر جڑی بوٹیاں دوبارہ اُگ آئیں تو بوائی کے 35 تا 40 دن بعد دوبارہ سپرے کریں۔ سپرے کے وقت کھیت تر وتر حالت میں ہونا چاہیے۔ دونوں مرتبہ سپرے کے 24 تا 36 گھنٹے کے بعد کھیت کو پانی ضرور لگادیں اور 4 تا 6 دن تک پانی کھڑا رکھیں۔

آبپاشی

- آبپاشی کا انحصار موسم، زمین اور طریقہ کاشت پر ہوتا ہے۔ زمین کی صحیح طور پر ہمواری پانی کے بہتر استعمال کے لئے بہت اہم ہے۔
- وتر کاشت میں پہلا پانی فصل کی بوائی کے 3 تا 5 دن کے بعد لگائیں۔ اُگاؤ کے بعد 30 دن تک تر وتر کا پانی لگاتے رہیں۔ اس کے بعد وتر کا پانی لگائیں اور خشک کاشت میں کاشت کے فوراً بعد کھیت کو پانی لگائیں لیکن خیال رہے کہ زمین صرف گیلی ہو اور پانی کھڑا نہ ہو۔
- دانے دار زہریں ڈالتے وقت 3 تا 4 دن تک کھیت میں پانی کھڑا رکھیں تاکہ زہر اپنا پورا اثر کر سکے۔
- دانہ بنتے وقت فصل کو کسی صورت سوکا نہ لگنے دیں ورنہ پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔
- فصل کی کٹائی سے 15 تا 20 روز پہلے زمین کی قسم کو مدنظر رکھتے ہوئے پانی لگانا بند کر دیں۔

کھادوں کی سفارشات

کھادوں کا مناسب اور متناسب استعمال دھان کی اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہے۔ غیر متناسب استعمال کی صورت میں پودوں کی جڑیں صحیح طور پر نشوونما نہیں کر پاتیں جس سے فصل گر جاتی ہے اور پیداوار میں کمی آجاتی ہے۔ کھادوں کا متوازن استعمال کرنے کے لئے زمین کا تجزیہ کرائیں۔ تاہم اوسط زرخیزی والی زمین کے لئے دھان کی فصل میں کھادوں کی سفارشات درج ذیل ہیں۔

موٹی اقسام

72، 40 اور 25 کلوگرام بالترتیب نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش یعنی پونے دو بوری ڈی اے پی، اڑھائی بوری یوریا، اور ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ۔

باسمتی/فائن اقسام

54، 35 اور 25 کلوگرام بالترتیب نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش یعنی ڈیڑھ بوری ڈی اے پی، پونے دو بوری یوریا، ایک بوری ایس او پی فی ایکڑ۔

کھادوں کے استعمال کا طریقہ

ڈی اے پی اور ایس او پی کی پوری مقدار بوائی کے وقت ڈال دیں۔ یوریا کی پونی بوری بوائی کے 30 تا 35 دن بعد جڑی بوٹیاں مکمل طور پر تلف کرکے ڈالیں۔ اس کے بعد حسب ضرورت آدھی تا پونی بوری یوریا فی ایکڑ ڈال دیں۔ یوریا کی بقیہ مقدار بوائی کے 55 تا 60 دن بعد ڈال دیں۔ فصل کے لئے خوراکی اجزاء کی سفارش کردہ مقدار کے حصول کے لئے دیگر متبادل کھادیں بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

زنک اور بوران کا استعمال

- زنک سلفیٹ (33 فیصد) بحساب 6 کلوگرام یا زنک سلفیٹ (27 فیصد) بحساب 7.5 کلو گرام یا زنک سلفیٹ (21 فیصد) بحساب 10 کلوگرام فی ایکڑ بوائی کے 30 تا 35 دن بعد نائٹروجنی کھاد کی پہلی قسط کے ساتھ ڈالیں۔
- بوران کی کمی کی صورت میں زمین کی تیاری کے وقت بورک ایسڈ (17%) بحساب 3 یا بوریکس 10.5 فیصد بحساب 4.5 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں۔ اگر پچھلی فصل میں بوران کا استعمال کیا گیا ہو تو دھان میں اس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔

منتقلی لاب بذریعہ ٹرانسپلانٹر مشین

دھان کی بہترین پیداوار کے حصول کے لئے پودوں کی سفارش کردہ فی ایکڑ تعداد بہت ضروری ہے۔ سروے کے مطابق کسانوں کے کھیتوں میں پودوں کی فی ایکڑ تعداد کافی کم ہوتی ہے۔ لاب لگانے والے مزدور ایک تو دستیاب نہیں ہوتے اور دوسرا یہ دھان کے پودوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں لگاتے۔ رائس ٹرانسپلانٹر یعنی مشینی کاشت کے ذریعے کم وقت میں زیادہ رقبہ پر منتقلی لاب کے علاوہ سفارش کردہ پودوں کی فی ایکڑ تعداد کا حصول ممکن بنایا جاسکتا ہے۔ اس طریقہ کاشت کے فروغ کے لئے ضروری ہے کہ کاشتکار متعلقہ مشینری کے استعمال، پنیری اُگانے، کھیت میں منتقل کرنے اور کھیت کی مناسب تیاری کے متعلق آگاہی رکھتے ہوں۔ اڈاپٹیو ریسرچ فارمز اور تحقیقاتی ادارہ برائے دھان کالا شاہ کاکو کے زیر انتظام اس طریقہ کاشت سے متعلق کامیاب تجربات کیے گئے ہیں۔

مشین سے منتقلی لاب کے فوائد

- لاب کی بروقت منتقلی
- پودوں کی مطلوبہ تعداد کا حصول
- منتقلی کے بعد پودوں کی بڑھوتری کا جلد آغاز
- مزدوروں کی قلت پر قابو
- پیداواری لاگت میں کمی
- فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ

مشینی منتقلی لاب کے لئے ضروری عوامل

- کھیت کا بذریعہ لیزر لینڈ لیولر ہموار ہونا
- پلاسٹک ٹرے میں یا پلاسٹک شیٹ پر لاب کی تیاری
- لاب لگاتے وقت پانی کی مقدار کا کم ہونا
- لاب کی تیاری اور منتقلی بذریعہ مشین کرنے سے متعلق کاشتکار و آپریٹر کا مکمل تربیت یافتہ ہونا

پلاسٹک ٹرے میں پنیری اُگانے کا طریقہ کار

- ایک ایکڑ دھان کی نرسری تیار کرنے کے لئے 100 تا 120 ٹرے درکار ہوتی ہیں جن کے لئے بیج کی مقدار 8 تا 10 کلوگرام چاہیئے ہوگی۔
- تصدیق شدہ، بیماریوں سے پاک بیج، سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔
- زمین ہموار ہو اور سیڈنگ مشین سے کاشت کی صورت میں سطح زمین زیادہ نرم نہ ہو تا کہ مشین آسانی سے حرکت کر سکے۔
- ٹرے کے لئے مٹی زرخیز (بھل یا میرا) ہو اور اس میں پتھر یا روڑ وغیرہ نہ ہوں۔ مٹی کو 5 ملی میٹر سوراخوں والے چھاننے سے چھان لیں۔
- مٹی بھرنے کے بعد ٹرے ایک سیدھ میں رکھ دیں۔ تقریباً ایک مرلہ میں 100 ٹرے رکھی جاسکتی ہیں۔ بعد میں پانی لگا دیں لیکن ٹریوں کے اوپر پانی نہ چڑھے اور ان کو سوکا بھی نہ لگنے پائے۔ پنیری کا قد بڑا ہونے پر پانی کھڑا بھی رکھا جاسکتا ہے۔

- اگر پنیری قد میں چھوٹی یا کمزور نظر آئے تو بوائی کے ہفتہ دس دن بعد ایک تا ڈیڑھ کلوگرام یوریا کھاد فی 100 ٹرے پر چھٹہ دیں۔
- کیڑے وغیرہ کے حملہ کی صورت میں سفارش کردہ زہر کا استعمال کریں۔
- بوائی کے 25 تا 30 دن بعد پنیری منتقلی کے قابل ہو جاتی ہے۔ منتقلی سے تقریباً 12 گھنٹے قبل ٹریوں کو پانی سے نکال کر خشک جگہ پر رکھ دیں اور تھوڑا خشک ہونے دیں تاکہ پنیری کی جڑوں پر زیادہ گیلی مٹی ہونے کی صورت میں مشین کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔

منتقلی لاب کا طریقہ

- مشین کو چلانے سے پہلے اس کی ضروری سروس اور تیل / گریس وغیرہ کریں
- مشین سے کوئی زور زبردستی نہ کریں اور انجن آئل کا خاص خیال رکھیں
- لاب کی منتقلی کے لئے کھیت کا اچھی طرح ہموار ہونا بہت ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ بذریعہ لیزر لینڈ لیولر ہموار کرلیں
- منتقلی لاب سے دو دن پہلے کھیت کو اچھی طرح تیار کریں اور کدو کریں۔ منتقلی کے وقت کھیت میں پانی کی مقدار ایک انچ سے کم اور یکساں رکھیں
- لاب لگاتے وقت جب مشین موڑ کاٹ رہی ہو تو لاب لگانا بند کر دیں تاکہ مشین کا نقصان نہ ہو۔ خالی جگہ پر مشین کا سیدھا پھیرا لگائیں
- منتقلی لاب کے دوران اگر مشین ناغے چھوڑے تو اسے اچھی طرح چیک کر کے درست کرلیں اور رہ جانے والے ناغوں کو پُر کرلیں
- لائنوں کا باہمی فاصلہ 12 انچ جبکہ پودوں کا باہمی فاصلہ 6 انچ برقرار رکھیں۔ تاہم ٹرانسپلانٹر میں پودے سے پودے کا فاصلہ کم یا زیادہ کرنے کی سہولت موجود ہے
- مشین کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ پودے ڈیڑھ انچ سے زیادہ گہرے نہ لگیں

دھان کی فصل پر محفوظ زہر پاشی

دھان کی فصل پر غیر ضروری زہر پاشی سے اجتناب کریں۔ مندرجہ ذیل زہریں جن کے اثرات فصل اور چاول میں دیر تک موجود رہتے ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ اگر چاول میں زہروں کے اثرات موجود ہوں تو بین الاقوامی منڈی میں اس کی مانگ نہیں ہوتی۔ کیڑے اور بیماریوں کی معاشی حد آنے پر ہی سفارش کردہ محفوظ زہر محکمہ زراعت کے عملہ سے مشورہ کے بعد استعمال کریں۔ تمام زہروں کی تفصیل اگلے صفحات میں دیے گئے جدول میں موجود ہیں۔ کسی بھی زہر کا سپرے وقفہ قبل از برداشت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کریں۔

خبردار: چاول کی فصل پر زرعی زہروں کی باقیات کی وجہ سے درج ذیل زہریں سپرے کرنا ممنوع ہیں امیڈا کلوپرڈ، پروفینزن، ایسٹامیپرڈ، ٹرائی ایزوفاس، تھایامیتھاگزم، کاربینڈازم، ٹیبوکونازول، کلورپائری فاس، تھائیوفینیٹ میتھائل، پروفینوفاس، ٹرائی سائیکلازول، ہیگزاکونازول، فلوٹریافال۔

دھان کی فصل کی بیماریاں اور ان کا انسداد

عام طور پر دھان کی فصل پر پتوں کے بھورے دھبے، پتوں کا جراثیمی جھلساؤ، غلافی جھلساؤ، دھان کا بھبکا یا بلاسٹ، دھان کی بکائنی اور تنے کی سڑانڈ حملہ آور ہوتی ہیں جن کی علامات اور طریقہ انسداد درج ذیل ہے۔ بیماریوں کی روک تھام کے لئے نائٹروجنی کھاد کا متناسب استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پوٹاش والی کھاد کا بھی استعمال کریں۔

1. پتوں کے بھورے دھبے (Brown Leaf Spot)

یہ بیماری ایک پھپھوندی (Bipolaris oryzae) کی وجہ سے ہوتی ہے اور باسمتی و موٹی اقسام دونوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ پوٹاش کی کمی والے کھیتوں میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کا حملہ پتوں کے علاوہ دانوں پر بھی ہوتا ہے۔ پتوں پر چھوٹے چھوٹے گول یا بیضوی نشان ظاہر

ہوتے ہیں جن کے کناروں کا رنگ بھورا اور درمیانی حصہ خاکستری ہوتا ہے۔ شدید حملے کی صورت میں دھبوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دانوں پر حملے کی صورت میں قدرے گول یا لمبوترے سیاہی مائل بھورے نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ پنیری پر حملہ کی صورت میں یہ دور سے جھلسی ہوئی نظر آتی ہے۔

انسداد

بیماری سے پاک بیج استعمال کریں۔ مقامی زرعی توسیع عملہ کے مشورہ سے بیج کو سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر لگا کر کاشت کریں۔ بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔

2. پتوں کا جراثیمی جھلساؤ (Bacterial Leaf Blight)

یہ بیماری ایک جرثومے (Xanthomonas oryzae pv.oryzae) کی وجہ سے پھیلتی ہے اور فصل پر گوبھ کے وقت نمودار ہوتی ہے اور پتے کی نوک اور کناروں سے شروع ہو کر لمبائی اور چوڑائی میں بڑھتی ہے اور تندرست حصوں میں نیچے تک چلی جاتی ہے۔ پتوں پر بیماری کی علامات سفید نمدار دھاری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں بعد میں پتے کا بیمار حصہ سوکھ کر سفید ہو جاتا ہے اور پتہ اوپر کی طرف لپٹ جاتا ہے۔ شروع میں اس کا حملہ ٹکڑیوں (Patches) کی شکل میں ہوتا ہے جو بعد میں موافق موسمی حالات میں بڑھ جاتا ہے اور پوری فصل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ دُور سے فصل جھلسی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بیمار پودوں پر دانے بہت کم بنتے ہیں اور پیداوار متاثر ہوتی ہے۔

انسداد

غیر منظور شدہ اور ممنوعہ اقسام ہرگز کاشت نہ کریں۔ مدافعتی اقسام کاشت کریں۔ بیماری والے کھیت کا پانی دوسرے کھیت میں نہ جانے دیں تاکہ بیماری دوسرے کھیتوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ دھان کے کھیتوں میں پانی کی سطح 1 تا 3 انچ سے زیادہ نہ ہونے دی جائے۔ بیماری کے جرثومہ کے دوران زندگی کے تسلسل کو توڑنے اور اس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لئے جڑی بوٹیوں کو بروقت کنٹرول کریں۔ دھان کے کیڑوں بالخصوص پتہ لپیٹ سنڈی کا بروقت موثر تدارک کریں۔ ابتدائی مرحلہ پر ہی بیماری کی پہچان کر کے بیمار پودوں اور آس پاس والے چند صحت مند پودوں کو اُکھاڑ کر تلف کر دیں۔

پوٹاش کا استعمال بیماری کے خلاف قوتِ مدافعت بڑھاتا ہے۔ نائٹروجنی کھاد کو تین برابر اقساط میں یعنی زمین کی تیاری اور پنیری کی منتقلی کے بالترتیب 25 اور پھر 50 دن بعد ڈالیں۔ حملہ کی صورت میں سفارش کردہ زہر کا سپرے وقفہ قبل از برداشت کو مدنظر رکھ کر کریں۔

3. دھان کا غلافی جھلساؤ (Sheath Blight)

یہ بیماری ایک پھپھوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حملے کی ابتدا میں پانی کی سطح کے ساتھ پتے کے غلاف پر 1 تا 3 سینٹی میٹر لمبوترے اور بیضوی سبزی مائل سرمئی رنگ کے نمدار نشان ظاہر ہوتے ہیں جو بعد میں بے ترتیب شکل میں اندر سے سفیدی مائل سرمئی اور کناروں سے قدرے گہرے جامنی یا سرخی مائل بھورے رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ فصل کی ابتدائی حالت میں حملہ ہونے کی صورت میں پودوں کی شاخیں بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پتے گر جاتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے دانے کو خوراک کی ترسیل صحیح مقدار میں نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے پیداوار اور کوالٹی متاثر ہوتی ہے۔

تدارک

تدارک کے لئے کھادوں کا متوازن استعمال کریں اور سفارش کردہ زہر سپرے کریں۔

4. بھبکا یا بلاسٹ (Blast)

یہ بیماری ایک پھپھوندی (Pyricularia oryzae) کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے- باسمتی اقسام پر اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے- اس کا حملہ پتوں، گانٹھوں، مونجر کی گردن اور مونجر پر ہوتا ہے۔ میرا زمین والے کھیت جن میں پانی کھڑا رکھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے وہاں اس کا حملہ شدید ہوتا ہے- پتوں پر آنکھ کی شکل جیسے نشان بن جاتے ہیں جو دونوں طرف سے نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کے کنارے گہرے بھورے اور ان کا درمیانی حصہ مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ سازگار حالات میں یہ نشان بڑے ہو کر آپس میں مل جاتے ہیں اور پتے کے بڑے حصے کو خشک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے

کی خوراک بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ جاتی ہے۔ گانٹھوں پر حملہ کی صورت میں گانٹھوں کے گرد سیاہ نشان پڑ جاتے ہیں جو اس کو پوری طرح گھیر لیتے ہیں۔ متاثرہ گانٹھ اور اس کے اوپر والا حصہ سوکھ جاتا ہے۔ مونجر کی گردن پر یا مونجروں پر حملہ کی صورت میں اس کے گرد سیاہی مائل نشانات ایک ہالہ بنا لیتے ہیں جس سے خوراک دانوں میں نہیں پہنچ سکتی اور دانے پورے نہیں بھر پاتے۔ شدید حملہ کی صورت میں دانے نہیں بنتے۔

انسداد

بیمار بیج ہرگز کاشت نہ کریں۔ فصل پچھیتی کاشت نہ کی جائے۔ کٹائی کے بعد متاثرہ فصل کے مڈھ اور پرالی تلف کر دیں کیونکہ ان میں بیماری کے تخم ریزے (Spores) ہوتے ہیں۔ نائٹروجن اور فاسفورس والی کھاد متناسب مقدار میں ڈالیں۔ گوبھ کی حالت سے لے کر مونجر نکلنے کے دو ہفتے بعد تک کھیت کو خشک نہ ہونے دیں۔ بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔

5. بکائنی (Foot Rot/Bakaene)

یہ بیماری ایک پھپھوندی (Fusarium moniliforme) کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ متاثرہ پودے صحت مند پودوں کی نسبت قد میں لمبے، باریک اور پیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ تنے پر بھورے رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں اور تنا وہاں سے گل سڑ جاتا ہے۔ یہ بیماری متاثرہ بیج کی کاشت سے اور پچھلے سال کے بیماری زدہ پرالی اور مڈھ (Plant Debris) کھیت میں موجود ہونے سے پھیلتی ہے۔ شدید متاثرہ پودے کے پتے نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک سوکھ جاتے ہیں اور پودا مرجاتا ہے۔ تنا نیچے کی گانٹھوں سے گل جاتا ہے۔ متاثرہ حصے سے اوپر کی گانٹھ سے جڑیں نکل آتی ہیں۔ بیماری سے پودا لمبا ہو کر مرجاتا ہے اور اس پر سفید یا گلابی مائل سفید پھپھوندی کی روئیں تہہ در تہہ پیدا ہو جاتی ہیں جس میں کروڑوں کی تعداد میں بیماری کے تخم ریزے (Spores) ہوتے ہیں۔ یہ تخم ریزے دوسرے پودوں میں بیماری پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ بعض اوقات متاثرہ پودے کے چند شگوفے (Tillers) مرجاتے ہیں اور باقی تنوں پر سٹے نکل آتے ہیں لیکن ان میں دانے بہت کم بنتے ہیں۔ چند بیمار پودے سارے کھیت کو آلودہ کر دیتے ہیں جو اگلے سال بیماری پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔

انسداد

بیماری والے کھیتوں میں قوتِ مدافعت رکھنے والی اقسام سپر باسمتی اور شاہین باسمتی، اری ۔6، کے ایس-282، کے ایس کے 133 اور نیاب اری-9 کاشت کریں۔ بیمار پودوں کو اکھاڑ کر ضائع کر دیں۔ بیماری والے کھیت سے بیج ہرگز نہ لیں۔ بکائنی سے متاثرہ نرسری کھیت میں منتقل نہ کریں۔ بیج کو سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر ضرور لگائیں کیونکہ بکائنی کو کنٹرول کرنے کا یہ موثر ذریعہ ہے اور فصل کے اوپر سپرے کرنے کی اس ضمن میں اتنی افادیت نہ ہے۔

6. تنے کی سڑانڈ (Stem Rot)

اس بیماری کا سبب ایک پھپھوندی (Sclerotium oryzae) ہے جو موٹی اور باسمتی اقسام دونوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس بیماری کی علامات سٹہ نکلنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ بیماری کے سپور یعنی جراثیم (Sclerotia) پانی کی سطح پر تنے کی اوپر والی پرت (Leaf Sheath) کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور سیاہی مائل بھورے نشان بنا دیتے ہیں۔ اوپری پرت گل جاتی ہے بعد ازاں یہ بیماری تنے پر حملہ آور ہوتی ہے۔ اس طرح تنا گل جاتا ہے اور فصل گر جاتی ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں مونجر پر دانے نہیں بنتے اور وہ سفید نظر آتی ہے۔ اگر تنے کو متاثرہ جگہ سے چیرا جائے تو اندر بے شمار سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیماری کے سپور نظر آتے ہیں۔ بیماری کے حملے کے باعث پیداوار متاثر ہوتی ہے۔

انسداد

بیماری والے کھیت میں موجود دھان کے مڈھ تلف کر دیں تا کہ ان میں موجود بیماری کے ثمری مخزن تلف ہو جائیں۔ کھیت میں پانی زیادہ دنوں تک ایک ہی سطح پر کھڑا نہ رکھیں۔ بیماری سے

متاثرہ کھیت کا پانی دوسرے کھیت میں نہ جانے دیں۔ لاب کی منتقلی کے 50 تا 55 دن بعد کھیت میں مسلسل پانی کھڑا نہ رکھیں بلکہ فصل کو وتروں کا پانی لگائیں۔ زمین کی تیاری کے وقت بیماری کے سپور پانی پر تیر کر کھیت کے کونوں یا کناروں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہاں سے اکٹھا کر کے تلف کریں۔ فصلوں کا ادل بدل کریں۔

7. فالس سمٹ (ہلدی روگ) (False Smut)

یہ ایک فنگس سے پھیلنے والی بیماری ہے جو مونجر نکلنے کے مرحلے میں پودے کو متاثر کرتی ہے اور بعد میں بالیوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بیماری پیداوار، معیار اور بیج کے اگاؤ کو متاثر کرتی ہے۔ دھان کے دانوں کی جگہ (ابتدا میں نارنجی پیلے رنگ کے) اور بعد میں سبز مائل سیاہ گولے بن جاتے ہیں اور پھٹنے پر سفوف نما بیضے خارج کرتے ہیں۔ زیادہ بارش اور نمی (95٪ سے زیادہ)، نائٹروجن کھادوں کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور درجہ حرارت 25 تا 35 ڈگری سینٹی گریڈ اس بیماری کے بڑھنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔

انسداد

بیماری سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت رکھنے والی اقسام کاشت کریں۔ کاشت کے بعد متاثرہ بالیاں اور باقیات ختم کریں۔ نائٹروجن کھاد کا متوازن استعمال کریں۔ شدید حملہ کی صورت میں آخر میں دیے گئے جدول میں موجود فالس سمٹ پر سفارش کردہ پھپھوندی کش زہروں میں سے کسی ایک کا بروقت سپرے وقفہ قبل از برداشت کو مدِنظر رکھ کر کریں۔

دھان کے نقصان دہ کیڑے اور ان کا انسداد

عام طور پر تنے کی سنڈیاں، پتہ لپیٹ سنڈی، سفید پُشت والا تیلہ اور بھورا تیلہ دھان کی فصل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تنے کی سنڈیاں باسمتی اقسام پر زیادہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ پتہ لپیٹ سنڈی موٹی اور باسمتی دونوں اقسام پر یکساں حملہ آور ہوتی ہے جبکہ سفید پُشت والا تیلہ عموماً موٹی اقسام پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔ موٹی اقسام کے نہ ہونے کی صورت میں یہ باسمتی اقسام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ٹوکا (گراس ہاپر) دھان کی پنیری اور فصل دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ علاوہ ازیں سیاہ بھونڈی (Rice Hispa) بھی دھان پر حملہ آور ہوتی ہے۔ لشکری سنڈی کا حملہ عام نہیں اس کا حملہ چند جگہوں پر دیکھا گیا ہے تاہم حملہ کافی شدید ہوتا ہے۔ ان کیڑوں کے دورانِ زندگی اور انسداد کے بارے میں تفصیل درج ذیل ہے۔ کیمیائی انسداد اگلے صفحات میں دیا گیا ہے۔

1. تنے کی سنڈیاں

دھان کی فصل خصوصاً باسمتی اقسام پر تنے کی سنڈیوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ زرد اور سفید سنڈیاں زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں جبکہ گلابی سنڈی کم نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کیڑا موسمِ سرما سنڈی کی حالت (Larval Stage) میں دھان کے مڈھوں کے اندر گزارتا ہے۔ یہ سنڈیاں مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں کویا (Pupa) میں تبدیل ہوجاتی ہیں جن سے پروانے بن کے نکلتے ہیں اور آئندہ فصل کے لئے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ سنڈیاں تنے میں داخل ہوکر اندر ہی اندر اسے کھاتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے تنے کی کونپل سوکھ جاتی ہے جسے ''سوک یا ڈیڈ ہارٹ'' کہتے ہیں۔ تنے کی سنڈیوں کا حملہ اگر سٹے بنتے وقت ہو تو حملہ شدہ تنوں کے سٹے سفید ہوجاتے ہیں جنہیں ''وائٹ ہیڈ'' کہتے ہیں اور ان سٹوں میں دانے نہیں بنتے ہیں۔

• تنے کی زرد سنڈی

یہ مکمل سنڈی سفیدی مائل زرد ہوتی ہے۔ پروانے کے اگلے پروں کے درمیان ایک سیاہ نقطہ نما نشان ہوتا ہے۔ یہ کیڑا سنڈی کی حالت میں دھان کی پنیری اور فصل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ موسم سرما میں سنڈیاں دھان کے مڈھوں میں سرمائی نیند سو کر گزارتی ہیں۔

• تنے کی سفید سنڈی

پروانے کا رنگ چمکدار اور دودھیا سفید ہوتا ہے۔ مادہ پروانے کے پیٹ کے آخری حصہ پر زرد بالوں کا گچھا ہوتا ہے۔ سنڈی کا رنگ قدرے سبزی مائل سفید ہوتا ہے۔ دھان کی پنیری اور فصل کی ابتدائی حالت میں حملہ شدہ شاخ کو سوک کہتے ہیں۔ موسم سرما میں سنڈیاں دھان کے مڈھوں میں سرمائی نیند سو کر گزارتی ہیں۔

• تنے کی گلابی سنڈی

پروانے کا رنگ بھورا، جسم بھاری بھرکم، سر چوڑا اور گھنے بالوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ اگلے پروں پر درمیان میں لمبائی کے رخ ایک ہلکی لکیر ہوتی ہے۔ مکمل سنڈی گلابی رنگ کی ہوتی ہے جو فصل کی ابتدائی حالت میں سوک بناتی ہے۔ دھان کے علاوہ مکئی، کماد، گندم، جئی، سوانک اور سرکنڈا اس کے میزبان پودے ہیں۔ دھان کی فصل پکنے سے کچھ دیر پہلے یہ کیڑا ستمبر / اکتوبر کا وقت کماد اور چارہ جات پر گزارتا ہے۔ موسم سرما کے ابتدائی دنوں میں انہی فصلات میں سرمائی نیند گزارنے کے بعد دھان پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کا حملہ ٹکڑیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔

انسداد

دھان کے مڈھوں کو ماہ فروری کے آخر تک ہل چلا کر تلف کریں کھیتوں میں فالتو اُگے ہوئے دھان کے پودوں کو ماہ اپریل سے پہلے ہی ختم کر دیں تاکہ پروانوں کو انڈے دینے کے لئے پودے میسر نہ ہوں۔ دھان کی پنیری 20 مئی کے بعد کاشت کریں کیونکہ ان دنوں میں پروانے بہت کم تعداد میں ملتے ہیں۔ لاب / پنیری لگاتے وقت سوک والے پودے ہرگز نہ لگائیں بلکہ ان کو تلف کر دیں۔ پتوں پر انڈوں کی ڈھیریوں کو تلف کر دیں۔ پنیری کے کھیتوں اور ان کے اطراف میں اُگی ہوئی جڑی بوٹیاں تلف کر دیں۔ رات کو روشنی کے پھندے لگائیں۔ روشنی کے پھندوں پر پروانے آنے پر ٹرائیکوگراما کے کارڈ لگائیں۔ کیمیائی انسداد کے لیے سفارش کردہ دانے دار زہریں حملہ کے نقصان کی معاشی حد آنے پر کھڑے پانی میں ڈالیں اور 3 تا 5 دن تک پانی کھڑا رکھیں۔

2. پتہ لپیٹ سنڈی

پروانے کے پر سنہری از زردی مائل بھورے رنگ کے ہوتے ہیں اور ان پر ٹیڑھی میڑھی لائنیں ہوتی ہیں۔ سنڈی کے سر کا رنگ کالا اور جسم انگوری ہوتا ہے۔ اس کی سنڈیاں پتوں کا سبز مادہ کھا جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے پتوں پر مٹیالے رنگ کی لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ انڈے سے نکلنے کے بعد سنڈی ایک دو دن تک کھلے پتے پر رہتی ہے اور بعد میں یہ پتے کے دونوں کناروں کو اپنے لعاب سے بنائے ہوئے دھاگے سے جوڑ کر اسے نالی نما بنا لیتی ہے اور اس کے اندر رہ کر اس کے سبز مادہ کو کھا جاتی ہے۔ اس طرح ضیائی تالیف کا عمل متاثر ہوتا ہے اور خوراک بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے۔ اس کا حملہ ٹکڑیوں میں ہوتا ہے۔ سایہ دار جگہ میں حملہ زیادہ ہوتا ہے۔

انسداد

- نائٹروجنی کھادوں کا غیر ضروری استعمال نہ کریں کیونکہ فصل کی گہری سبز رنگت اور نرمی پتہ لپیٹ سنڈی کے پروانوں کو مائل کرنے کا باعث بنتی ہے۔
- سایہ دار جگہوں پر پتہ لپیٹ سنڈی کا حملہ شدید ہوتا ہے لہٰذا ایسے کھیت جن پر درختوں وغیرہ کا سایہ زیادہ ہو وہاں دھان کی کاشت نہ کریں۔
- روشنی کے پھندے ان کیڑوں کے پروانوں کو تلف کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے اس لئے رات کے وقت کھیتوں میں روشنی کے پھندے لگائیں۔
- جڑی بوٹیوں خصوصاً گھاس کو کھیتوں اور وٹوں پر سے تلف کریں۔
- کیمیائی انسداد کے لئے سفارش کردہ زہریں وقفہ قبل از برداشت کو مدنظر رکھ کر استعمال کریں۔

3. دھان کے تیلے

تیلہ جسامت میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن نقصان بہت پہنچاتا ہے۔ یہ پودے کے نچلے حصہ یعنی تنے سے رس چوستا ہے۔ جب نیچے سے فصل سوکھ جائے تب اوپر پتوں اور مونجروں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا حملہ عام طور پر کھیت میں ٹکڑیوں کی شکل میں شروع ہوتا ہے۔ بالغ اور بچے پتوں اور تنے کا رس چوستے ہیں۔ متاثرہ پتے پیلے اور پھر بھورے ہو جاتے ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں پودے سوکھ کر سیاہ رنگ کے ہو جاتے ہیں اور جھلسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حملہ کی اس نوعیت کو ''ہاپر برن یا تیلے کا جھلساؤ'' کہتے ہیں۔ یہ عموماً ستمبر کے دوسرے ہفتہ میں فصل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ موٹی اقسام پر اس کا حملہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔

انسداد

- کھیت کے اندر اور اطراف میں اُگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کریں کیونکہ تیلہ ان پر پرورش پاتا ہے۔
- سفید پشتی تیلے یا بھورے تیلے کے حملہ کا پتہ لگانے اور کنٹرول کرنے کے لیے پیلے چپکنے والے پھندے (Yellow Sticky Traps) لگائیں۔
- روشنی کے پھندے ان کیڑوں کے پروانوں کو تلف کرنے کا ایک موثر طریقہ ہے۔ رات کو روشنی کے پھندے لگائیں۔
- کھیت میں مسلسل پانی کھڑا نہ رکھیں، حملہ ہونے کی صورت میں فوری سوکا لگائیں۔
- سایہ دار جگہوں پر دھان کی کاشت نہ کریں۔
- نائٹروجن والی کھادوں کا غیر ضروری استعمال نہ کریں۔
- سفارش کردہ تعداد سے زیادہ پودے نہ لگائیں۔
- کیمیائی انسداد کے لیے سفارش کردہ زہر وقفہ قبل از برداشت کو مدنظر رکھتے ہوئے استعمال کریں۔
- اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باسمتی اقسام میں فصل کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ستمبر کے آخر میں دانے دار زہر استعمال کریں۔ فصل کی ابتدائی حالت میں کیڑے مار زہر استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔

4. سیاہ بھونڈی

اس کیڑے کا حملہ چند مخصوص علاقوں میں دیکھا گیا ہے۔ یہ کیڑا لاب منتقل کرنے کے ڈیڑھ سے دو ماہ کے اندر اندر فصل پر حملہ کرتا ہے۔ اس کیڑے کے بالغ پتوں کے اوپر سے اور بچے پتوں کو اندر سے کھرچ کر سبز مادہ کھا جاتے ہیں جس سے پتوں پر سفید دھاریاں بن جاتی ہیں اور پتا خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح سبز مادہ بہت کم ہو جانے کی وجہ سے پودا خوراک نہیں بنا سکتا اور اس سے فصل کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں دھان کے کھیت جلے ہوئے یا جھلسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

انسداد

جن پتوں میں بچے موجود ہوں ان کو کاٹ کر تلف کر دیں۔ بالغ بھونڈی کو ہاتھ یا دستی جال سے پکڑ کر تلف کریں۔ جڑی بوٹیاں خصوصاً ڈب اور ڈیلا تلف کریں۔

5. ٹوکے (Grass hoppers)

ٹوکے کا حملہ پنیری اور فصل دونوں پر ہوتا ہے لیکن پنیری پر حملہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے بچے اور بالغ پتوں کو کھاتے ہیں۔ بعض اوقات شدید حملہ کی صورت میں پنیری دوبارہ کاشت کرنا پڑتی ہے۔ ٹوکے کی اکثر اقسام سبز رنگ کی ہوتی ہیں تاہم بعض خاکی اور مٹیالے رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹوکے زمین یا پتوں پر گچھوں کی شکل میں انڈے دیتا ہے۔ یہ کیڑا موسم سرما انڈوں کی حالت میں کھیت کی

وٹوں پر یا زمین کے اندر گزارتا ہے۔ ان انڈوں سے بچے نکل کر شروع مارچ میں برسیم، سورج مکھی، کماد اور جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتے ہیں جہاں سے یہ کماد اور سبز چارے کا نقصان کرنے کے بعد دھان کی پنیری پر حملہ آور ہوتے ہیں۔

انسداد

کھیتوں کے اندر اور اطراف میں وٹوں اور کھالوں پر اُگی ہوئی جڑی بوٹیاں تلف کریں تا کہ یہ کیڑا پرورش نہ پا سکے۔ دستی جالوں سے پکڑ کر ان کو تلف کر دیں۔ دھان کی پنیری کو چری اور مکئی کے کھیتوں کے قریب کاشت نہ کریں۔ کھیت کے اندر اور باہر وٹوں اور کھالوں کی صفائی کریں۔ کیمیائی انسداد کے لئے سفارش کردہ زہر استعمال کریں۔

6. لشکری سنڈی

سنڈی کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوتا ہے اور اس کے جسم پر ہلکی دھاریاں ہوتی ہیں۔ سال میں اس کی چار تا پانچ نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ عموماً سبزیات، چارہ جات، کپاس اور تمبا کو وغیرہ پر حملہ آور ہوتی ہے اور انہیں شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ اب یہ دھان کی فصل پر حملہ آور ہونے لگی ہے۔ اس کیڑے کا شمار کاٹنے اور کترنے والے کیڑوں کے گروپ میں ہوتا ہے۔ سنڈی پکتی ہوئی فصل کے سٹوں کو کاٹ کاٹ کر ضائع کر دیتی ہے۔ شدید حملہ کی صورت میں زمین پر مونجی کے سٹوں اور دانوں کی تہہ بچھ جاتی ہے اور پیداوار کا خاصا حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سنڈی چونکہ زیادہ تر پکتی ہوئی فصل پر حملہ کرتی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر ایسے زہروں کا سپرے یا ڈھوڑا کرنے کی سفارش کی جاتی ہے جن کا اثر کم عرصہ تک رہے۔

انسداد

انڈوں اور چھوٹی سنڈیوں کے حامل پتوں کو توڑ کر تلف کر دیں۔ متبادل خوراکی پودوں اور جڑی بوٹیوں سے فصل کو پاک رکھا جائے۔ اگر سنڈیاں پورے قد کی ہو جائیں تو زہر پاشی سے گریز کریں اور ان کی کویا کی حالت گزرنے کا انتظار کریں۔ ٹکڑیوں میں حملہ کی صورت میں پورے کھیت کی بجائے صرف متاثرہ حصوں پر سفارش کردہ زہر کا سپرے کریں۔ اگر حملہ شدت اختیار کر جائے اور اس امر کا احتمال ہو کہ اس کی آبادی متاثرہ کھیت سے دوسرے قریبی کھیتوں میں منتقل ہو جائے گی تو ان کھیتوں کے ارد گرد نالیاں کھود کر پانی بھر دیا جائے اور اس میں مٹی کا تیل ڈال دیا جائے۔ طفیلی کیڑے اور پرندے اس کے انسداد میں بڑا موثر کردار ادا کرتے ہیں۔ دھان کے کھیتوں کے نزدیک باجرہ وغیرہ کی فصل کاشت کر کے پرندوں کو ترغیب دیں۔ فصل کے شروع کے دنوں ہی میں روشنی کے پھندے لگا دیئے جائیں تو کافی حد تک اس کے پروانوں کو تلف کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی علاقے میں اجتماعی طور پر روشنی کے پھندے لگائے جائیں تو بہتر نتائج لئے جا سکتے ہیں۔

سپرے سے متعلقہ احتیاطی تدابیر

سپرے صبح کے وقت شبنم ختم ہونے پر یا شام کے وقت کریں۔ زہر والی خالی بوتلوں کو زمین میں گہرا دبا دیں۔ سپرے مشین لیک نہ ہو۔ سپرے کرتے وقت پورا لباس اور بند جوتے پہنیں۔ کیڑے مار زہر کے لئے ہالوکون اور جڑی بوٹی مار زہر کے لئے ٹی جیٹ نوزل استعمال کریں۔ تیز ہوا میں سپرے نہ کریں۔ عینک اور ماسک پہنیں۔ سپرے کرتے وقت کھانے پینے یا سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ جسم پر یا آنکھوں میں زہر پڑ جانے پر متاثرہ حصے کو اچھی طرح پانی سے دھوئیں۔ خدانخواستہ اگر زہر کا اثر ہو جائے تو فوری طور پر کھلی ہوا میں آ جائیں اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں نیز زہر کا لیبل ضرور دکھائیں۔

فصل دوست کیڑوں کی حفاظت

فائدہ مند کیڑے بطور شکاری کیڑے فصل کے دشمن کیڑوں کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتے ہیں مثلاً ڈریگن فلائی، ٹرائیکو گراما، لیڈی برڈ بیٹل، کرائی سو پرلا، نمازی کیڑا اور مکڑی۔ لہٰذا ان فصل دوست

کیڑوں کو محفوظ ماحول دینے کے لیے بھی زہروں کے اندھا دھند استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ فصل کی کٹائی کے بعد کھیتوں میں آگ نہ لگائیں، اس سے نہ صرف ماحول صاف رہتا ہے بلکہ فصل دوست کیڑوں کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔

زرعی زہروں کا وقفہ قبل از برداشت

فصل میں زرعی زہروں کا استعمال کرتے وقت ان کے سفارش کردہ وقفہ قبل از برداشت کو ضرور مدنظر رکھیں تاکہ جنس میں ان زہروں کی باقیات کے اثرات نہ رہیں۔ مزید یہ کہ جنس کھانے کے لئے محفوظ ہو اور برآمد کرنے کی صورت میں بین الاقوامی منڈی میں رد نہ ہو۔ دھان کی سفارش کردہ مختلف زہروں کے متعلق تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔

دھان کے لئے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ زرعی زہریں

نقصان دہ کیڑے و سفارش کردہ زہریں

نمبر شمار	نام کیڑا	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از برداشت (دن)
1	ٹوکا	بائی فینتھرین 10 فیصد ای سی	250 ملی لٹر	30
2	تنے کی سنڈیاں	کارٹیپ 4 فیصد جی، 8 فیصد جی	9 کلوگرام، 4.5 کلو گرام	40
3	تنے کی سنڈیاں	مونومی ہائپو 5 فیصد جی	7 کلوگرام	14
4	تنے کی سنڈیاں	فلو بینڈیامائیڈ 48 فیصد ایس سی	75 ملی لٹر	7
5	پتہ لپیٹ سنڈی	کارٹیپ 4 فیصد جی	9 کلوگرام	40
6	پتہ لپیٹ سنڈی	گیما سائی ہیلوتھرن 60 سی ایس	75 ملی لٹر	21
7	پتہ لپیٹ سنڈی	ایمامیکٹن بینزوییٹ + اینڈوکسا کارب 9 فیصد ایس سی	60 تا 120 ملی لٹر	28
8	پتہ لپیٹ سنڈی	ایمامیکٹن بینزوییٹ + لیمڈا سائی ہیلوتھرین 1.8 فیصد ایم ای	100 ملی لٹر	16
9	تنے کی سنڈیاں، پتہ لپیٹ سنڈی	ایمامیکٹن بینزوییٹ + لیمبڈا سائی ہیلوتھرین 12 فیصد ڈبلیو پی	100 ملی لٹر	16
10	تنے کی سنڈیاں، پتہ لپیٹ سنڈی	آئیسو سائیکلو سیرم 18.1 ایس سی	120 ملی لٹر، 40 ملی لٹر	29
11	تنے کی سنڈیاں، پتہ لپیٹ سنڈی	ٹیٹرانیلی پرول 200 فیصد ایس سی	100 ملی لٹر	33
12	سفید پشتی و بھورا تیلہ	پائی میٹروزین 50 فیصد ڈبلیو جی	60 گرام	14
13	سفید پشتی و بھورا تیلہ	نائٹن پائیرم + پائی میٹروزین 60 فیصد ڈبلیو ڈی جی	100 گرام	14
14	سفید پشتی و بھورا تیلا	کلورینٹرانیلی پرول + ایمامیکٹن بینزوییٹ 0.26 فیصد جی	8 کلوگرام	14

15	سفید پشتی و بھورا تیلا	کلورینٹرانیلی پرول 0.4 جی	4 کلوگرام	14
16	سفید پشتی و بھورا تیلا	پائی میٹروزین + ڈائی نو ٹیفوران 60 ڈبلیو جی	100 گرام	14
17	سفید پشتی و بھورا تیلا	فلونکامڈ 50 فیصد ڈبلیو جی	60 گرام	7
18	سفید پشتی و بھورا تیلا	ٹرائی فلومیزوپرم 100 ایس سی	94 ملی لٹر	21

دھان کی بیماریاں اور سفارش کردہ زہریں

نمبر شمار	نام بیماری	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از برداشت (دن)
1	بھبکا	ڈائی فینوکونازول 250 ای سی	125 ملی لٹر	14
2	بھبکا، فالس سمٹ	ایزاکسی سٹروبن + ڈائی فینوکونازول 30 فیصد ایس سی	200 ملی لٹر	28
3	بھبکا	ویلیڈامائسین + ڈائی فینوکونازول 12 ڈبلیو پی	250 گرام	14 تا 35
4	بھبکا، بھورے دھبے، غلافی جھلساؤ	ایزاکسی سٹروبن + ڈائی فینوکونازول 30 فیصد ایس سی	200 ملی لٹر	7 تا 14
5	بھورے دھبے	پکوکسی سٹروبن + سائپروکونازول 280 ایس سی	240 ملی لٹر	42
6	بھورے دھبے	ڈائی فینا کونازول + پروپی کونازول 300 ای سی	120 ملی لٹر	30 تا 45
7	بھورے دھبے، غلافی جھلساؤ	فلوآکساسٹروبن 48 فیصد ایس سی	100 تا 125 ملی لٹر	28
8	جراثیمی جھلساؤ، بھبکا، غلافی جھلساؤ	کسوگامائی سین 2 فیصد ایس ایل	600 ملی لٹر	14
9	غلافی جھلساؤ	ہیکسا کونازول 5 ایس سی	400 ملی لٹر	21
10	غلافی جھلساؤ	ایزاکسی سٹروبن + پراپی کونازول 32 فیصد ایس سی	200 تا 250 ملی لٹر	35
11	غلافی جھلساؤ، جراثیمی جھلساؤ	ویلیڈامائی سین 5 فیصد ایس ایل	300 ملی لٹر	11
12	پتوں کا جراثیمی جھلساؤ	ویلیڈامائی سین + اپوکسی کونازول 24 فیصد ایس سی	100 ملی لٹر	15
13	پتوں کا جراثیمی جھلساؤ	کاپر ہائیڈروآکسائیڈ 77 ڈبلیو پی	200 گرام	14
14	پتوں کا جراثیمی جھلساؤ، فالس سمٹ	کاپرآکسی کلورائیڈ 50 فیصد ڈبلیو پی	500 گرام	14

15	چتوں کا جراثیمی جھلساؤ	کاپر آکسی کلورائیڈ + کسوگامائی سین 50 فیصد ڈبلیو پی	200 گرام	14
16	چتوں کا جراثیمی جھلساؤ، بھبکا، چتوں کے بھورے دھبے	سلفر 80 فیصد ڈبلیو جی	800 گرام	7
17	فالس سمٹ	پکوکسی سٹرابن + پروپی کونازول 30 فیصد ایس سی	204 تا 228 ملی لٹر	21

دھان کی جڑی بوٹیاں اور تدارک کے لئے سفارش کردہ زہریں

1۔ اُگاؤ سے پہلے استعمال ہونے والی زہریں

(لاب سے منتقل شدہ فصل کے لیے)

نمبر شمار	نام جڑی بوٹی	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از برداشت (دن)
1	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	بیوٹا کلور 60 فیصد ای سی	800 ملی لٹر لاب کی منتقلی کے 1 تا 5 دن کے اندر ڈالیں	60
2	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	پریٹیلا کلور 50 فیصد ای سی	400 ملی لٹر لاب کی منتقلی کے 1 تا 5 دن کے اندر ڈالیں	60
3	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	بین سلفیوران + ایسیٹا کلور 14%WP	350 گرام فی ایکڑ لاب کی منتقلی کے 1 تا 5 دن کے اندر ڈالیں	21
4	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	بیوٹا کلور + پنوکزلم 410 ایس سی	800 ملی لٹر لاب کی منتقلی کے 1 تا 5 دن کے اندر ڈالیں	60
5	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	پائرازو سلفیوران 10 ڈبلیو پی	100 گرام لاب کی منتقلی کے 1 تا 5 دن کے اندر ڈالیں	90

(بیج سے براہ راست کاشتہ فصل کے لیے)

نمبر شمار	نام جڑی بوٹی	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از برداشت (دن)
1	تقریباً تمام قسم کی جڑی بوٹیاں	ٹرائیا فامون + اتھاکسی سلفیوران 30 فیصد ڈبلیو جی	75 گرام فصل کاشت کرنے کے 1 تا 3 دن بعد وتر حالت میں سپرے کرنے کے بعد زمین کو تر وتر رکھیں	21

2	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	پینڈی میتھالین 33 فیصد ای سی	ایک لٹر فصل کاشت کرنے کے 24 تا 36 گھنٹے بعد سپرے کریں اور خیال رکھیں سپرے کرتے وقت کھیت میں پانی کھڑا نہ ہو	14

2۔ اُگاؤ کے بعد استعمال ہونے والی جڑی بوٹی مار زہریں

نمبر شمار	نام جڑی بوٹی	زرعی زہر کا نام	مقدار فی ایکڑ	وقفہ قبل از برداشت (دن)
1	گھوڑا گھاس	بیٹامی فاپ 10 ای سی	500 ملی لٹر +800 ملی لٹر بائیو انہانسر فصل کاشت کرنے کے 12 تا 15 دن بعد یا جب جڑی بوٹیاں 3 تا 4 پتوں کی حالت میں ہوں۔ سپرے کے ایک دن بعد پانی لگائیں اور 5 دن پانی کھڑا رکھیں	90
2	ڈھڈن، سوانکی، ڈیلا اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	بسپائری بیک سوڈیم + بن سلفیوران 30 فیصد ڈبلیو پی ،30 فیصد ڈبلیو ڈی جی	100 گرام 160 ملی لٹر ایڈ جوئینٹ فصل کاشت کرنے کے 18 تا 22 دن بعد وتر حالت میں سپرے کریں۔	80
3	گھاس نما اور ڈیلے کے خاندان والی جڑی بوٹیاں	سائی ہیلوفاپ بیوٹائل + بسپائری بیک سوڈیم 16 فیصد او ڈی	400 تا 500 ملی لٹر 7 تا 14 دن بعد جب جڑی بوٹیاں 3 تا 4 پتوں کی حالت میں ہوں تو وتر حالت میں سپرے کریں	30
4	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	پینا کسولم + فینا کساپراپ پی ایتھائل 10 فیصد او ڈی	250 تا 300 ملی لٹر 15 تا 21 دن بعد وتر حالت میں سپرے کریں	60
5	گھوئیں، بھوئیں، ڈیلا، کناکی، مرچ بوٹی، چوپتی وغیرہ،	ایتھاکسی سلفیوران 60 فیصد ڈبلیو جی	20 گرام فصل کاشت کرنے کے 15 تا 20 دن بعد وتر حالت میں سپرے کریں	21

6	گھاس نما، ڈیلا کا خاندان اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں	سائی ہیلوفاپ بیوٹائل + بسپائری بیک سوڈیم + پینا کسولم 14 فیصد او ڈی	400 تا 500 ملی لٹر 7 تا 14 دن بعد جب جڑی بوٹیاں 3 تا 4 پتوں کی حالت میں ہوں تو وتر حالت میں سپرے کریں	60
7	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	سائی ہیلوفاپ بیوٹائل + فلور پائرو کسیفن 172 ای سی	828 ملی لٹر 7 تا 14 دن بعد جب جڑی بوٹیاں 3 تا 6 پتوں کی حالت میں ہوں تو وتر حالت میں سپرے کریں	60
8	گھاس نما اور چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں	سائی ہیلوفاپ بیوٹائل + پینا کسولم + بین سلفیوران میتھائل 21 فیصد او ڈی	180 تا 300 ملی لٹر	60
9	گھاس نما جڑی بوٹیاں	میٹا میفاپ + سائی ہیلوفاپ بیوٹائل 20% ای سی	300 ملی لٹر فی ایکڑ	45

فصل کی برداشت

اچھی اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لئے فصل کی برداشت مناسب وقت پر کریں۔ ہاتھ کے ساتھ کٹائی کا مناسب وقت وہ ہے جب سٹے کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نچلے دو تا تین دانے ہرے ہوں لیکن بھر چکے ہوں۔ دانے میں نمی کا تناسب 20 تا 22 فیصد ہو۔ اگر فصل کمبائن ہارویسٹر سے کٹوائی ہو تو جب فصل کے دانے 100 فیصد پک جائیں تو برداشت کریں۔

مونجی کی محفوظ ذخیرگی

مونجی کی بعد از برداشت ذخیرگی کے دوران اس میں نقصان دہ حشرات، پھپھوندی اور چوہوں کی نشوونما کی وجہ سے مونجی کے وزن اور اس کی کوالٹی کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ خاص طور پر کھپرا، سونڈ والی سسری اور افلاٹاکسن کی موجودگی کی وجہ سے چاول کی ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ چاول کی مربوط طریقہ سے ذخیرگی کے لیے مندرجہ ذیل عوامل پر خاص طور پر عمل کرنا چاہیے۔

- کسانوں، ملرز اور سٹاکسٹ سے گزارش ہے کہ وہ چاول کو ذخیرہ کرنے کیلیے پٹ سن اور پرانے پی پی بیگز (باردانہ) کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ نیز گوداموں میں چاول ذخیرہ کرنے سے پہلے گوداموں کی مکمل صفائی کروائیں۔
- مونجی کو ذخیرہ کرنے سے پہلے دانوں میں موجود نمی کو دھوپ لگوا کر یا گرین ڈرائیرز کو استعمال کرتے ہوئے حتی الامکان تک خشک کرلیں۔ زیادہ نمی پھپھوندی اور حشرات کی نشوونما کی بنیادی وجہ ہے۔
- چاول سٹوریج کرنے سے ایک ہفتہ پہلے گودام کے باہر اور اندر دیواروں اور فرش پر سپرے کے لئے صرف Deltamethrin یا Alphacypermethrin کی سفارش کردہ سپرے کریں۔

- گودام میں سٹوریج کرنے کے بعد ذخیرہ شدہ جنس پر کسی بھی قسم کا سپرے سختی سے منع ہے۔
- گوداموں کی فیومیگیشن کے لیے سب سے پہلے گودام کو اچھی طرح مکمل ہوا بند کریں پھر اس کے بعد گودام میں ایلومینیم فاسفائیڈ کی گولیوں کی سفارش کردہ مقدار بحساب 25 تا 30 گولیاں فی 1000 مکعب فٹ کسی ماہر حشرات کی نگرانی میں استعمال کروائیں۔
- گودام کو کم از کم دو ہفتوں کے لیے مکمل طور ہوا بند رکھیں۔
- ذخیرگی کے دوران بارشوں کے موسم میں گودام کو مکمل طور ہوا بند رکھیں تا کہ دانوں میں نمی کی مقدار بڑھنے نہ پائے اور پھپھوندی اور افلا ٹاکسن کی نشوونما نہ ہونے پائے۔
- چوہوں کے نقصان سے بچنے کے لئے گودام میں میکانکی پھندوں اور پنجروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ کسی ماہر حشرات کی مدد سے زنک فاسفائیڈ یا خون پتلا کرنے والی چوہے مار زہروں (Anticoagulants) کے خوراکی طعموں کا استعمال کروائیں۔

مشینی برداشت

دھان کی برداشت کافی حد تک بذریعہ کمبائن ہارویسٹر ہو رہی ہے۔ اس مقصد کے لئے عام طور پر گندم برداشت کرنے والی مشینیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ مشینیں دھان کی برداشت کے دوران اس کے دانے توڑتی ہیں اور دانے کا چھلکا اتارتی ہیں۔ مشینی برداشت کی صورت میں سبز، کمزور، خالی دانے اور پودے کے سبز حصے بھی جنس میں شامل ہو جاتے ہیں اور جنس کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ مشینی برداشت کی صورت میں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

- دھان کی فصل کی برداشت کے لئے یعنی کبوٹا اقسام مشینیں استعمال کریں۔
- گندم برداشت کرنیوالی مشینوں کے ساتھ دھان کی برداشت کرنے کے لئے مخصوص پرزہ جات (Attachment) استعمال کریں۔
- مشین کا آپریٹر تربیت یافتہ ہو اور مشین کو فصل کے مطابق ایڈجسٹ (Adjust) کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
- برداشت کے دوران مشین کی رفتار مقررہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
- گری ہوئی یا لمبے قد والی فصل کی برداشت کرتے وقت مشین کی رفتار کم رکھیں۔
- مشین کا گیئر، تھریشنگ ڈرم اور پنکھے کی رفتار مشین کے ساتھ فراہم کردہ ہدایت نامہ کے مطابق رکھیں۔
- برداشت کے دوران وقفے وقفے سے مونجی کا معائنہ کر کے چھلے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے دانوں کو چیک کرتے رہیں تا کہ مشین کو بروقت ایڈجسٹ کیا جا سکے۔
- برداشت کے دوران مشین کے پیچھے چادر یا کپڑا لگا کر وقتاً فوقتاً تسلی کر لیں کہ مونجی کے دانے پرالی میں نہیں جا رہے۔
- اگر کسی وجہ سے دھان کی کٹائی میں تاخیر ہو جائے، فصل زیادہ پک جائے اور دانوں میں نمی کی سطح 18 فیصد سے کم ہو جائے تو مشینی کٹائی سے اجتناب کریں۔
- دھان کی قسم بدلنے سے پہلے مشین کی مکمل صفائی کر لیں تا کہ مختلف اقسام مکس نہ ہوں اور چاول کی کوالٹی اچھی ہو۔
- اگر دھان کی برداشت بذریعہ کمبائن ہارویسٹر کرنے کے بعد گندم کی فصل بذریعہ سپر سیڈر (Super Seeder) کاشت کرنی ہو تو دھان کی فصل کو قدرے اونچا کاٹیں تا کہ گندم کی بوائی با آسانی ہو سکے۔

جنس کو خشک کرنا اور ایفلا ٹاکسن (AFLATOXIN) سے بچاؤ

برداشت کے بعد مونجی کو ڈھیر کی صورت میں رکھنے سے اس میں ایفلا ٹاکسن یعنی اُلی لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جنس کا معیار خراب ہو جاتا ہے اور چاول کی قیمت اور قبولیت دونوں میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی برآمد میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایفلا ٹاکسن سے متاثرہ خوراک انسانی صحت کے نقصان دہ ہے اور جگر کے کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لئے برداشت کے بعد مونجی کو بڑے ڈھیروں میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ اندر سے گرم یعنی (Heat up) ہو کر خراب ہو جاتی ہے اور اس میں ایفلا ٹاکسن یعنی اُلی لگ جاتی ہے۔ اس لئے مونجی کو اچھی طرح خشک کر کے ذخیرہ کریں۔ جنس کو دھوپ میں (4 تا 6 دن) سکھائیں تا کہ اس میں 12 تا 13 فیصد سے زیادہ نمی نہ ہو۔

فصل کی باقیات کو جلانے کی سخت ممانعت

دھان کی برداشت جب کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ کی جاتی ہے تو بڑی مقدار میں دھان کا پرول یعنی کٹی ہوئی پرالی کھیت میں بکھری ہوئی رہ جاتی ہے۔ اکثر کاشتکار اگلی فصل کے لئے زمین کی تیاری کے پیشِ نظر دھان کے مڈھوں اور پرول کو جلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف زمین کی بالائی سطح پر موجود نامیاتی مادہ جل جاتا ہے بلکہ آگ سے اٹھنے والا دھواں فضائی آلودگی اور سموگ کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے حکومت نے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگا رکھی ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی اور جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس لئے کاشتکاروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ فصلوں کی باقیات کو ہرگز نہ جلائیں۔ دھان کے مڈھوں کی کٹائی کے لئے رائس سٹرا چاپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے فصل کی باقیات کے ساتھ ساتھ کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جاتی ہیں اور زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔

پیسٹ سکاؤٹنگ و پیسٹ سروے

نقصان دہ کیڑے اور ان سے فصل پر ہونے والے نقصانات کا اندازہ کرنے کو پیسٹ سکاؤٹنگ کہتے ہیں جبکہ کسی بھی وسیع علاقہ میں کیڑوں کی موجودگی کا اندازہ لگانے کا عمل پیسٹ سروے کہلاتا ہے۔ سروے کا عمل سارا سال جاری رہتا ہے۔ اسطرح ان علاقوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے جہاں پر آئندہ حملہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کیڑے کا دورانِ زندگی معلوم کیا جاتا ہے۔

پیسٹ سکاؤٹنگ کے فوائد

• نقصان دہ کیڑوں کی پیشگوئی • نقصان دہ کیڑوں سے متاثرہ علاقوں کی نشاندہی • کیڑوں کے دورانِ زندگی میں کمزور اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی • کیڑوں کے انسداد کے لئے بروقت لائحہ عمل کی تیاری • کیڑوں کے خلاف سپرے کے لیے صحیح زہر اور وقت کا انتخاب • کھیت کے صرف متاثرہ حصوں کی زہر پاشی • مفید کیڑوں کے بڑھنے پھولنے میں معاون • اندھا دھند سپرے سے بچاؤ اور سپرے کی تعداد، خرچ اور وقت میں بچت۔

پیسٹ سکاؤٹنگ کے طریقے

زگ زیگ طریقہ

یہ طریقہ عام طور پر دھان کی پنیری کی پیسٹ سکاؤٹنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تا چار مختلف جگہوں سے ایک ایک مربع فٹ کے پوائنٹ لئے جاتے ہیں۔ جو متعلقہ کھیت یا پلاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔

وتری طریقہ

کھیت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلنا شروع کریں۔ پہلے کونے سے 14 قدموں پر پہلا پوائنٹ لیں۔ پوائنٹ ایک مربع میٹر کا ہوگا۔ دوسرا، تیسرا اور چوتھا پوائنٹ 25,25 قدم کے بعد لیا جائیگا۔ آخر میں کھیت کے دوسرے کونے تک 14 قدموں کا پوائنٹ لیں۔

نوٹ: فصل دھان بلاک کی صورت میں ہو اور فصل کی قسم، عمر اور حالت ایک جیسی ہو تو کوئی ایک کھیت منتخب کریں۔ جو نمائندہ کھیت کہلائے گا۔ انتخاب شدہ کھیت سے وتری طریقہ سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ یہ طریقہ عملی طور پر آسان اور سائنسی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔

دھان کے مختلف کیڑوں کے معائنہ کا طریقہ

تنے کی سنڈیاں

تعین شدہ چار مقامات پر پودوں اور شاخوں کی کل تعداد معلوم کی جائیگی۔ ان میں حملہ شدہ شاخوں کی تعداد معلوم کر کے حملہ فی صد نوٹ کیا جائے گا۔

تیلہ

تیلے کا حملہ موسمی حالات کے مطابق شروع ہوتا ہے اور ستمبر کے وسط میں شدت اختیار کرتا ہے۔ یہ کیڑا بالغ اور بچہ دونوں حالتوں میں نقصان پہنچاتا ہے۔ بتائے گئے پیسٹ سکاؤٹنگ کے طریقوں کے مطابق منتخب کھیت سے چاروں پوائنٹس پر اس کے بالغ اور بچے فی پودا نوٹ کئے جائیں گے۔

پتہ لپیٹ سنڈی

پتہ لپیٹ سنڈی کا حملہ لاب لگانے کے تقریباً 45 دن بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی تعداد بڑھتی رہتی ہے۔ موسمی حالات کے مطابق ستمبر کے شروع میں حملہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور سنڈیاں پتوں کا سبز مادہ بند نالی بنا کر کھاتی ہیں۔ مندرجہ بالا پیسٹ سکاؤٹنگ کے طریقوں کے مطابق چاروں پوائنٹس سے بند نالیاں فی پودا شمار کی جاتی ہیں۔

کالی بھونڈی

تعین شدہ مقامات پر سے پودوں کی تعداد معلوم کریں گے۔ پھر ان ہی پودوں پر کالی بھونڈی کے بالغ یا بچوں کی تعداد معلوم کریں گے۔ اس طرح تعداد بھونڈی/گرب (Grub) فی پودا معلوم کی جائے گی۔

پنیری دھان میں پیسٹ سکاؤٹنگ کا طریقہ

دھان کی پنیری چونکہ مختلف سائز اور شکل کی ٹکڑیوں میں کاشت کی جاتی ہے لہٰذا اس میں پیسٹ سکاؤٹنگ کرتے وقت ایک مربع فٹ کا چوکھٹا استعمال کریں اور کھیت کے سائز اور شکل کے مطابق چار مختلف مقامات کا انتخاب کریں، پھر پودوں کی کل تعداد اور ان میں متاثرہ شاخیں نوٹ کریں اور حملہ فیصد معلوم کریں۔

دھان کے کیڑے اور بیماریوں کے نقصان کی معاشی حد

نمبر شمار	مہینہ	نام کیڑا/بیماری	نقصان کی معاشی حد	نرسری (تعداد/فیصد)	فصل (تعداد/فیصد)
1	مئی۔ اگست۔ستمبر	تنے کی سنڈیاں	روشنی کے پھندوں پر تعداد پروانے فی رات	5-4	8 تا 10
2	- اگست	// سفید پشتی اور بھورا تیلہ	سوک تعداد بچہ یا بالغ کیڑے فی پودا	0.5% -	5% 15 تا 20
3	ستمبر۔اکتوبر اگست۔ستمبر	// پتہ لپیٹ سنڈی	// حملہ شدہ/لپٹے ہوئے پتے فی پودا	- -	20 تا 25 2
4	ستمبر۔اکتوبر	ہسپا (کالی بھونڈی)	تعداد کیڑا فی پودا	-	1

5	مئی تا اکتوبر	ٹوکا	تعداد بالغ کیڑے فی نیٹ	3	5 عدد یا 3% نقصان
6	ستمبر۔ اکتوبر	بھبکا جھلساؤ ۔بھورے دھبے	بیماری کی علامات ظاہر ہونے پر	-	-

دھان کی فصل میں پیسٹ سکاؤٹنگ کا چارٹ

نام زمیندار و پتہ:__________ (نمونہ معہ مثال):__________

رقبہ فصل دھان: 10 ایکڑ قسم: سپر باسمتی عمر فصل دھان: 55 دن

رقبہ انتخاب شدہ کھیت: ایک ایکڑ

مشاہدہ	چوکھٹا نمبر-1	چوکھٹا نمبر-2	چوکھٹا نمبر-3	چوکھٹا نمبر-4	کل
1) کل پودے	19	17	16	18	70
2) کل شاخیں	143	132	120	138	533
3) متاثرہ شاخیں سوک/سفید مونجر	8	3	13	5	29
4) حملہ پتہ لپیٹ سنڈی (لپٹے ہوئے پتے)	32	18	39	21	110
5) حملہ سیاہ بھونڈی (تعداد بھونڈی/گرب)	8	13	-	4	25
6) متاثرہ پودے بکائی	3	2	1	4	**10**

حملہ/نقصان کی شدت معلوم کرنے کا طریقہ

نام کیڑا/ بیماری	حملہ/نقصان کی نوعیت	حاصل شدہ مواد سے معلوم کرنا	شدت
1) تنے کی سنڈیاں	سوک/سفید سٹہ فیصد	29 / 533 x 100	5.44 فی صد
2) پتا لپیٹ سنڈی	لپٹے ہوئے پتے فی پودا	110 / 70	1.57 فی پودا
3) سیاہ بھونڈی	تعداد فی پودا	25 / 70	0.35 فی پودا
4) بکائی	حملہ فیصد	10 / 70 x 100	14.28 فی صد

دھان کے پیداواری منصوبہ خریف 2026 پر عمل درآمد کے لئے لائحہ عمل

تفصیل عوامل	وقت عمل	ذمہ دار ادارے
دھان کے مڈھوں کی تلفی	28 فروری سے پہلے	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب
دھان کی 20 مئی سے پہلے کاشتہ نرسریوں کی تلفی	اپریل اور مئی کا مہینہ	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب
ریڈیو۔ ٹیلی ویژن۔ اخبارات اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دھان کی کاشت اور تحفظ نباتات سے متعلق جدید سفارشات کی تشہیر۔	مئی	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب، نظامت زرعی اطلاعات اور لوکل میڈیا
کاشتکاروں کو دھان کی کاشت کی ترغیب	دھان کی کاشت کے وقت	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب

بیج کی زہر پاشی کی ترغیب	اپریل تا اکتوبر	محکمہ زراعت (توسیع)/پیسٹ وارننگ پنجاب
دھان کے پیداواری منصوبہ کا اجراء	اپریل کے دوسرے ہفتے تک	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب نظامت زراعت کوارڈینیشن ایف،ٹی واڈاپٹو ریسرچ)
کھادوں کی فراہمی کا بندوبست	وسط اپریل سے وسط ستمبر تک	وفاقی حکومت، پرائیویٹ سیکٹر
دھان کے بیج کی فراہمی قرضہ جات برائے زرعی عوامل کھاد، زرعی ادویات	مئی سے جون تک مئی سے اکتوبر تک	مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیڈ کارپوریشن زرعی ترقیاتی بنک، کمرشل بنک، امداد باہمی
تحفظ نباتات کے موثر اقدامات	مئی سے اکتوبر تک	نظامت اعلیٰ زراعت (پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز) پنجاب
پیسٹ سکاؤٹنگ ٹیموں کی ہفتہ وار سروے رپورٹ کا اجراء، ہاٹ سپاٹ کی نشان دہی اور موثر کنٹرول کے متعلق ہدایات	مئی کے پہلے ہفتے سے اکتوبر کے دوسرے ہفتے تک	نظامت اعلیٰ زراعت (پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز) پنجاب
ہاٹ سپاٹ ایریا میں سفارشات پر عمل درآمد	جون سے آخر اکتوبر تک	محکمہ زراعت (توسیع واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب

معلومات کے لئے ہیلپ لائن اور ویب سائٹ

کاشتکار دھان کے کاشتی امور کے سلسلہ میں زرعی ہیلپ لائن 0800-17000 پر پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک فون کر کے مفید مشورے حاصل کر سکتے ہیں۔اس کے علاوہ محکمہ زراعت کی ویب سائٹ www.agripunjab.gov.pk سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔فصلات کے اعداد و شمار سے متعلقہ معلومات کے لئے ادارہ کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔مزید معلومات کے لئے مندرجہ ذیل فون نمبر پر رابطہ کریں۔

نمبر شمار	نام ادارہ/دفتر	کوڈ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر جنرل زراعت (توسیع) پنجاب لاہور	042	99200732	caodgaextpunjab@gmail.com
2	نظامت اعلیٰ زراعت (پیسٹ وارننگ و کوالٹی کنٹرول) پنجاب، لاہور	042	99204371	pestwarning@yahoo.com
3	ڈائریکٹر جنرل زراعت (ایف & ٹی) پنجاب، لاہور	042	99201345	adgaftpb@gmail.com
4	نظامت زراعت کوآرڈینیشن (ایف، ٹی واڈاپٹو ریسرچ) پنجاب، لاہور	042	99200741	dacpunjab@gmail.com
5	زرعی تحقیقاتی ادارہ دھان، کالا شاہ کاکو	042	37951826	director.rice@gmail.com
6	زرعی تحقیقاتی مرکز برائے دھان، بہاولنگر	063	2277373	ricebotanistbwn@gmail.com
7	زرعی تحقیقاتی ادارہ شورزدہ اراضیات، پنڈی بھٹیاں	0547	531376	directorssri@yahoo.co.uk

8	نیشنل کوآرڈینیٹر دھان پی اے آر سی، اسلام آباد	051	90762416	yousuf1136@yahoo.com
9	نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے بائیوٹیکنالوجی و جینیٹک انجینئرنگ، فیصل آباد	041	9201316-ext 284	marif_nibge@yahoo.com
10	شعبہ دھان ، نیاب۔ فیصل آباد (NIAB)	041	9201751	drmrashidhust@gmail.com
11	اینٹومالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد	041	9201680	director_entofsd@yahoo.com
12	پلانٹ پیتھالوجیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد	041	9201683	directorppri@yahoo.com
13	تحقیقاتی ادارہ برائے زرخیزی زمین لاہور	042	99233581	director_sfri@yahoo.com
14	ڈائریکٹر، کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب لاہور	042	99330377	dacrspunjab@gmail.com
15	شعبہ دھان نبجی (NIBGEE) فیصل آباد	041	9201316 ext. 3284	marif_nibge@yahoo.com

ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر زونل دفاتر

نمبر شمار	نام ادارہ / دفتر	کوڈ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس
1	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) شیخوپورہ	056	9200291	diragriftskp@gmail.com
2	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) گوجرانوالہ	055	9200200	daftgrw@gmail.com
3	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) وہاڑی	067	9201188	dafarmvehari@yahoo.com
4	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) سرگودھا	048	3711002	arfsgd49@yahoo.com
5	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) کروڑ، لیہ	0606	920310	daftkaror@gmail.com
6	ڈائریکٹر زراعت (ایف ٹی وائے آر) رحیم یار خان	068	-	daftrykhan@gmail.com

دفاتر نظامت و نائب نظامت زراعت (توسیع) پنجاب

نمبر شمار	نام ضلع	کوڈ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس
1	نظامتِ زراعت (توسیع) لاہور	042	99201171	daelahore@yahoo.com
2	لاہور	042	99200736	doaelhr2009@yahoo.com
3	قصور	049	9250042	ddaeksr@gmail.com
4	شیخوپورہ	056	9200263	ddaeskp@gmail.com
5	ننکانہ صاحب	056	9201134	ddaenns@gmail.com
6	نظامت زراعت (توسیع) فیصل آباد	041	9200755	daextfsd@gmail.com
7	فیصل آباد	041	9200754	ddaextfsd@gmail.com
8	جھنگ	047	9200289	ddajhang@gmail.com
9	ٹوبہ ٹیک سنگھ	046	9201140	doagrittsingh@yahoo.com
10	چنیوٹ	0476	9210171	chiniot.agri@yahoo.com

daextgujranwala@gmail.com	9200198	055	نظامت زراعت (توسیع) گوجرانوالہ	11
ddaextensiongrw@gmail.com	9200195	055	گوجرانوالہ	12
doaextskt@yahoo.com	9250311	052	سیالکوٹ	13
ddanarowal@gmail.com	2413002	0542	نارووال	14
daextgujrat@gmail.com	9330345	053	نظامت زراعت (توسیع) گجرات	15
ddaextgujrat@gmail.com	9260346	053	گجرات	16
ddaextmbdin@gmail.com	650390	0546	منڈی بہاؤالدین	17
doagriextension@gmail.com	920062	0547	حافظ آباد	18
docotor35@gmail.com	6601280	055	وزیرآباد	19
director.agri.sgd@gmail.com	9230526	048	نظامت زراعت (توسیع) سرگودھا	20
doaextentionsargodha@gmail.com	9230232	048	سرگودھا	21
doaextbkr@yahoo.com	9200144	0543	بھکر	22
ddaextkhb@gmail.com	920158	0454	خوشاب	23
doagriextmwi@gmail.com	920095	0459	میانوالی	24
daextswl01@gmail.com	4400198	040	نظامت زراعت (توسیع) ساہیوال	25
doaextsahiwal@yahoo.com	9330185	040	ساہیوال	26
doagriextok@live.com	9200264	044	اوکاڑہ	27
doapakpattan@gmail.com	921046	0457	پاکپتن	28

daextmultan@gmail.com	9200317	061	نظامت زراعت (توسیع) ملتان	29
doaextmultan@hotmail.com	9200748	061	ملتان	30
doagriculturekwl@gmail.com	9200060	065	خانیوال	31
doalodhran@gmailcom	921106	0608	لودھراں	32
doaextvehari@hotmail.com	9201185	067	وہاڑی	33
directoragriextbwp@gmail.com	9255181	062	نظامت زراعت (توسیع) بہاولپور	34
doaextbwp2010@gmail.com	9255184	062	بہاولپور	35
ddaextbwn@ygmail.com	9240124	063	بہاولنگر	36
doagriryk@yahoo.com	9230129	068	رحیم یار خان	37
daextdgk@gmail.com	9260142	064	نظامت زراعت (توسیع) ڈیرہ غازی خان	38
ddaextdgk@gmailcom	9260143	064	ڈیرہ غازی خان	39
doaext.layyah@gmailcom	920301	0606	لیہ	40
doarajanpur@gmail.com	920084	0604	راجن پور	41
ddaagriextmzg@gmail.com	9200042	066	مظفر گڑھ	42

دھان کی پیداوار بڑھانے کے اہم عوامل

- گندم کی برداشت کے بعد اور دھان (باسمتی اقسام) کی کاشت سے پہلے سبز کھاد کے طور پر استعمال ہونے والی فصلیں مثلاً جنتر وغیرہ اُگائیں اور مجوزہ طریقہ کار کے مطابق کتر کر زمین میں ملائیں تاکہ نامیاتی مادہ اور دائمی زرخیزی میں اضافہ ہو اور کیمیائی کھادوں کے استعمال کو کم کیا جا سکے نیز جڑی بوٹیوں کا انسداد بھی ہو۔
- دھان کی نرسری یا فصل 20 مئی سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔
- شرح بیج، مروجہ طریقہ کاشت اور قسم کو مدنظر رکھتے ہوئے کتابچہ میں دی گئی سفارشات کے مطابق رکھیں۔
- باسمتی/فائن اقسام یعنی، وائٹل سپر باسمتی، سونا سپر باسمتی، نیاب ایچ ٹی-39، نیاب ایچ ٹی-18، پی کے 2021 ایرومیٹک، الخالد رائس، این بی آر-2، نیاب سپر، نجی باسمتی 2020، سپر باسمتی، سپر باسمتی 2019، سپر گولڈ، باسمتی 515، شاہین باسمتی، کسان باسمتی، چناب باسمتی، پنجاب باسمتی، نور باسمتی، نیاب باسمتی 2016، پی کے 1121 ایرومیٹک، پی کے-386، اور باسمتی ہائبرڈ کے ایس کے 111 ایچ کاشت کریں۔
- موٹی اقسام اری-6، کے ایس-282، کے ایس کے-133، نیاب اری-9، کے ایس کے-434، کے ایس کے-706، نیاب-2013، نجی-5، نجی جی ایس آر - 6، نجی جی ایس آر - 7، نجی جی ایس آر - 8 اور ایس کے سی 32-5-370-B اور دیگر منظور شدہ ہائبرڈ اقسام کاشت کریں۔
- بیج سے پھیلنے والی بیماریوں کے تدارک کے لئے بیج کو سفارش کردہ پھپھوندی کُش زہر لگا کر کاشت کریں۔
- پودوں کی فی ایکڑ تعداد ایک لاکھ 60 ہزار رکھیں یعنی پودوں اور لائنوں کا باہمی فاصلہ 9 انچ رکھتے ہوئے 80 ہزار سوراخوں میں فی سوراخ 2 پودے لگائیں۔
- کھادوں کا متناسب استعمال زمین کے لیبارٹری تجزیہ کی روشنی میں اور کتابچہ میں دی گئی سفارشات کے مطابق کریں۔
- ہلکی باڑہ زمینوں میں اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے جپسم، سلفر یا کمرشل گندھک کے تیزاب کی سفارش کردہ مقدار ضرور ڈالیں۔
- زنک کی کمی کی صورت میں زنک سلفیٹ کی سفارش کردہ مقدار پنیری کی منتقلی کے بعد 10 تا 15 دن کے اندر استعمال کریں۔

- بوران کی کمی کی صورت میں زمین کی تیاری کے وقت 3 کلوگرام بورک ایسڈ (17 فیصد) یا 4.5 کلوگرام بوریکس (10.5 فیصد) فی ایکڑ استعمال کریں۔
- جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لئے قبل از اُگاؤ اثر کرنے والی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار زہر لاب کی منتقلی کے 3 تا 5 دن کے اندر استعمال کریں۔
- اُگی ہوئی جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لئے سفارش کردہ بعد از اُگاؤ اثر کرنے والی جڑی بوٹی مار زہریں مجوزہ طریقہ کار کے مطابق سپرے کریں۔
- دھان کے بھبکا کے تدارک کے لئے سفارش کردہ پھپھوندی کش زہر کا پہلا سپرے مونجر نکلنے سے 5 تا 6 دن پہلے اور دوسرا مونجر نکلنے کے 5 تا 6 دن بعد کریں
- جراثیمی جھلساؤ کے حملہ کی صورت میں بورڈو مکسچر یا دوسری سفارش کردہ کاپر کی حامل زہر کا سپرے کریں۔ بیماری والے کھیت سے پانی دوسرے کھیت میں نہ ڈالیں۔
- محفوظ زہروں کا استعمال کریں اور استعمال کرتے وقت وقفہ قبل از برداشت (PHI) کا ضروری خیال رکھیں۔
- گندم کی کاشت سپر سیڈر سے کرنا درکار ہو تو کمبائن ہارویسٹر سے کاٹی جانے والی فصل کو قدرے اونچا کاٹیں۔
- اگست و ستمبر کے مہینوں میں ہفتہ عشرہ کے وقفہ سے فصل کی باقاعدگی سے پیسٹ سکاؤٹنگ کریں۔ اگر کیڑے کا حملہ معاشی حد تک پہنچ جائے تو سفارش کردہ زہریں مجوزہ طریقہ کار کے مطابق بروقت استعمال کریں۔
- دھان کی بذریعہ بیج براہ راست کاشت کرنے سے پہلے طریقہ کاشت اور جڑی بوٹیوں کی تلفی سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرلیں۔
- افرادی قوت کی قلت کے پیش نظر لاب کی بروقت منتقلی اور پودوں کی سفارش کردہ تعداد کے حصول کے لئے اگر ممکن ہو تو پنیری اُگانے اور منتقل کرنے کے لیے مشینی طریقہ کار اپنائیں۔
- فصل کی برداشت کے لئے رائس ہارویسٹر (کبوٹا وغیرہ) استعمال کریں۔
- فصل کی باقیات کو جلانے کی بجائے رائس سٹرا چاپر کے ساتھ کتر کر کھیت میں ملادیں تاکہ ان باقیات کی تلفی کے ساتھ زمین کی زرخیزی میں اضافہ بھی ہو۔
- کیڑے اور بیماریوں کی معاشی حد آنے پر ہی سفارش کردہ محفوظ زہر استعمال کریں
- زرعی زہروں کا استعمال کرتے وقت ان کے سفارش کردہ وقفہ قبل از برداشت یعنی PHI کو ضرور مدنظر رکھیں تاکہ جنس میں زہروں کی باقیات نہ رہیں اور یہ کھانے کے لئے محفوظ ہوں اور برآمد کرنے کی صورت میں یہ بین الاقوامی منڈی میں قابلِ قبول ہوں۔

- جنس ذخیرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح خشک کرلیں تا کہ اس میں نمی کا تناسب 12 تا 13 فیصد رہ جائے اور ایفلا ٹاکسن کا مسئلہ نہ ہو۔
- دھان کی سابقہ فصل کے مُڈھ اگر کھیت میں موجود ہوں تو 28 فروری تک ضرور تلف کردیں۔
- دھان کی پیداوار بڑھانے کے لئے مصدقہ / محکمانہ سفارشات پر عمل کریں، اس ضمن میں گردش کرنے والی غیر مصدقہ معلومات پر عمل نہ کریں۔
- موسمیاتی تبدیلیوں کے پیشِ نظر دھان کی فصل کی بہترین دیکھ بھال کریں اور تحفظ نباتات اور دیگر کاشتی عوامل کا خاص خیال رکھیں۔
- آبپاشی کرتے وقت اس بات کا لازمی خیال رہے کہ پانی کا باکفایت استعمال ہو، پانی بالکل ضائع نہ کریں، فصل کی ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں پانی لگائیں۔

☆☆☆

تیار کردہ: نظامت اعلیٰ زراعت (توسیع) پنجاب لاہور

ڈیزائننگ واشاعت: نظامت اعلیٰ زرعی اطلاعات پنجاب، لاہور

Scan for Website

Scan for YouTube

Scan for Facebook

Scan for Tik Tok